



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Deutsch	4
Français	5
Nederlands	5
Dansk	6
Íslenska	7
Norsk	7
Suomi	8
Svenska	8
Česky	9
Español	10
Italiano	10
Magyar	11
Polski	11
Eesti	12
Latviešu	13
Lietuvių	13
Portugues	14
Româna	15
Slovensky	15
Български	16
Hrvatski	16
Ελληνικά	17
Русский	18
Українська	18
Srpski	19
Slovenščina	20
Türkçe	20
中文	21
繁中	21
한국어	22
日本語	22
Bahasa Indonesia	23
Bahasa Malaysia	23
عربي	24
ไทย	24
Tiếng Việt	25

English

IMPORTANT:

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY NOTES

- **IMPORTANT!** Always close/put down the parasol when not in use. Do not use or assemble the parasol in heavy winds, rain, thunderstorms or if it's snowing. In these weather conditions, we recommend to fold down or disassemble the parasol. Disassemble by following the setup steps in reverse.
- **IMPORTANT!** The parasol must be secured in place on the ground with HJÄLTÖN or SVARTÖ parasol base, sold separately, or with 4 slabs of concrete, cement or similar material. Recommended size of the slabs is 50x50 cm (about 20x20") with a total weight of min. 90 kg (199 lb). Slabs are not included but are available at a DIY store. Make sure the ground is level and firm. Distribute the slabs around the cross brace as shown in the assembly instructions.
- Assemble the parasol by following the assembly instructions carefully.
- Do not assemble the parasol on sandy, muddy or loose soil.
- Keep children and pets away while setting up the parasol.
- Children must be supervised around the parasol.
- This parasol is for outdoor use only.
- Do not light any fires under or near the parasol!
- This product has been tested for domestic use.
- This parasol is primarily intended to be used as a sunshade and not as wind protection.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the canopy, take it off the parasol frame by following the assembly instructions. Follow the care instructions that are sewn in to the fabric.

Never use solvent-based detergents since these may bleach the material and damage the fabric. Also, do not use any alkali or acidic detergents or steam blasters to clean the parasol.

To clean the parasol frame, wipe it with a mild soapy solution. It is not recommended to clean plastic or metal products with a strong cleaner or an abrasive material since it may discolour or damage the surface.

Repair: The parasol frame is painted with a powder coating of plastic paint. If for some reason the coating comes off, the parasol frame is not protected and this may result in rust. To repair the damage, wipe clean and repaint to restore the protection.

STORAGE

We recommend that you close the parasol when not in use and put a waterproof cover on it. Before putting the cover on, please make sure that your parasol is completely dry and clean. During the off-season, store the covered parasol in a cool and dry place indoors.

DISPOSAL

If you wish to dispose of the parasol, do not throw

it in the trash. Take it to a recycling centre. There, recyclable materials and other materials can be disposed of safely. Ask your local IKEA store or your local authority where a recycling location is in your area. Dispose of the packaging materials in the provided collection containers.

Deutsch

WICHTIG:

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR SPÄTER AUFBEWAHREN.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG! Sonnenschirm bei Nichtgebrauch immer schließen. Bei starkem Wind, Regen, Gewitter oder Schneefall den Schirm nicht montieren und nicht benutzen. Bei derartigem Wetter empfehlen wir, den Schirm zusammenzuklappen oder zu demontieren. Beim Auseinandernehmen in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage vorgehen.

WICHTIG! Der Sonnenschirm muss mit dem separat erhältlichen HJÄLTÖN oder SVARTÖ Sonnenschirmfuß oder mit 4 Platten aus Beton, Zement o. Ä. im Boden verankert werden. Empfohlenes Maß für die Platten: mind. 50x50 cm, Gesamtgewicht mind. 90 kg. Die Platten sind nicht beige packt, sie sind im Baufachhandel erhältlich. Darauf achten, dass der Boden unter den Platten glatt und fest gestampft ist. Die Platten gem. Zeichnung in der Anleitung um das Fußkreuz anordnen.

- den Sonnenschirm unter sorgfältiger Befolgung der Montageanleitung zusammenbauen.
- den Sonnenschirm nicht auf sandigem, lehmigem Boden oder auf loser Erde aufstellen.
- Kinder und Haustiere während der Montage des Sonnenschirms fernhalten.
- Kinder in der Nähe des Sonnenschirms unter Aufsicht halten.
- dieser Sonnenschirm ist nur für die Benutzung im Freien bestimmt.
- kein Feuer unter dem oder in der Nähe des Sonnenschirms anzünden.
- dieses Produkt ist für den Hausgebrauch getestet.
- dieser Sonnenschirm ist in erster Linie als Schutz vor Sonnenlicht bestimmt; nicht als Windschutz.

PFLEGEHINWEIS

Zum Reinigen den Stoffüberzug unter Beachtung der Montageanleitung vom Sonnenschirmhalter abnehmen. Die im Bezug eingenähte Pflegeanleitung befolgen.

Keine Reiniger auf Lösungsmittelbasis verwenden, da diese das Material ausbleichen und dem Stoff schaden können. Auch keine sauren und alkalischen Reinigungsmittel oder Dampfreiniger zum Säubern des Sonnenschirms benutzen.

Den Sonnenschirmhalter zum Reinigen mit einer milden Seifenlösung abwischen. Gegenstände aus Kunststoff oder Metall sollten nicht mit starken

Reinigungsmitteln oder Mitteln, die Schleifpartikel enthalten, gesäubert werden, da diese die Oberfläche verfärben bzw. beschädigen könnten.

Reparieren: Der Sonnenschirmhalter ist pulverbeschichtet mit Kunststofffarbe. Falls Farbe abblättern sollte, ist das Material nicht mehr geschützt und es kann sich Rost bilden. Zum Reparieren des Schadens die Stelle trocknen lassen und überstreichen, um die Schutzfunktion wiederherzustellen.

LAGERUNG

Wir empfehlen, den Sonnenschirm nach Gebrauch zusammenzuklappen und mit einer wasserdichten Hülle zu schützen. Darauf achten, dass der Schirm vor dem Überziehen der Hülle komplett trocken und sauber ist. Den Schirm nach der Sommersaison in der Hülle trocken und kühl drinnen lagern.

ENTSORGEN

Wirf den Schirm nicht in den Müll, wenn er ausgedient hat. Bring ihn zum Wertstoffhof oder einer Sammelstelle, wo wiederverwertbare Bestandteile und anderes Material auf sichere Art entsorgt werden. Erkundige dich bei Bedarf im IKEA Einrichtungshaus oder bei den örtlichen Behörden nach einem Wertstoffhof in deiner Nähe. Das Verpackungsmaterial in dafür bestimmten Behältern entsorgen.

Français

IMPORTANT :

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **IMPORTANT !** Toujours fermer/démonter le parasol quand il ne sert pas. Ne pas assembler ou utiliser le parasol lors d'épisodes de vents violents, de pluie, d'orage ou neigeux. En cas de mauvaises conditions météorologiques, il est recommandé de démonter et de plier le parasol. Démonter en suivant les étapes de montage à l'envers.
- **IMPORTANT !** Le parasol doit être posé au sol et maintenu en place grâce au pied de parasol HJÄLTÖN ou SVARTÖ, vendus séparément, ou à l'aide de 4 dalles de béton, de ciment ou un autre matériau similaire. Les dalles doivent mesurer au min. 50x50 cm (environ 20x20") et peser au min. 90 kg (199 lb). Les dalles ne sont pas incluses mais peuvent être achetées dans un magasin de bricolage. Le parasol doit être installé sur un sol plat et dur. Les dalles doivent être positionnées autour du piétement en croix comme indiqué sur la notice de montage.
- Suivre attentivement toutes les étapes de montage.
- Ne pas procéder au montage du parasol sur un sol sableux ou boueux.
- Garder les enfants et les animaux éloignés lors du montage du parasol.
- Toujours surveiller les enfants qui se trouvent à proximité du parasol.

- Parasol destiné à un usage extérieur uniquement.
- Ne pas allumer de feu à proximité ou sous le parasol.
- Produit testé pour répondre à un usage domestique.
- Ce parasol a été conçu pour protéger du soleil et non du vent.

INSTRUCTIONS

Pour nettoyer la toile, décrochez-la de la structure du parasol en suivant ce qui est indiqué dans la notice de montage. Suivre les conseils d'entretien cousus dans le tissu.

Ne jamais utiliser de produits d'entretien à base de solvant car ils risquent de décolorer le tissu et l'abîmer. Ne pas utiliser de produits acides ou alcalins ni de jets de vapeur pour nettoyer le parasol.

Pour nettoyer la structure du parasol, rincez-la à l'eau savonneuse. Il est recommandé de ne pas utiliser un nettoyeur puissant ou un matériau abrasif sur les parties en plastique et en métal pour ne pas les décolorer ni ne les abîmer.

Réparation : la structure du parasol est recouverte d'un revêtement en poudre de peinture plastique. Si ce revêtement venait à s'estomper, la structure du parasol ne serait plus protéger et pourrait rouiller. Pour la réparer, rincer et repeindre pour restaurer la couche protectrice.

STOCKAGE

Il est recommandé de fermer le parasol quand il ne sert pas et de le couvrir à l'aide d'une housse de protection. Avant de mettre la housse de protection, assurez-vous que le parasol est bien sec et propre. Durant l'hiver, ranger le parasol recouvert de la housse dans un endroit sec et tempéré, à l'intérieur.

MISE AU REBUT

Si vous souhaitez jeter votre parasol, ne pas le jeter dans une poubelle. Rapportez-le dans un centre de tri des déchets. Les matériaux recyclables et autres matériaux pourront être triés, recyclés et mis au rebut de façon sûre. Merci de contacter les autorités locales pour plus d'informations sur le point de collecte le plus proche. Merci de jeter les cartons d'emballage dans les points de collecte dédiés.

Nederlands

BELANGRIJK!

ZORGVULDIG BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- **BELANGRIJK!** Klap de parasol altijd in wanneer deze niet wordt gebruikt. Gebruik of monteer de parasol niet bij harde wind, regen, onweer of sneeuw. Bij dergelijk weer adviseren wij de parasol in te klappen of uit elkaar te halen. Haal de parasol in omgekeerde volgorde uit elkaar van hoe je hem in elkaar hebt gezet.
- **BELANGRIJK!** De parasol moet op zijn plaats op de grond worden vastgezet met een HJÄLTÖN of SVARTÖ parasolvoet (apart verkrijgbaar) of

met 4 platen van beton, cement of vergelijkbaar materiaal. De aanbevolen maat van de platen is 50x50 cm (ongeveer 20x20 ") met een totaal gewicht van min. 90 kg (199 lb). Platen zijn niet inbegrepen, maar zijn verkrijgbaar in een bouwmarkt. Zorg ervoor dat de grond vlak en stevig is. Verdeel de platen rond de dwarsbalk zoals aangegeven in de montage-instructies.

- Monteer de parasol door de montageaanwijzing zorgvuldig te volgen.
- Monteer de parasol niet op zanderige, modderige of losse grond/aarde.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt wanneer je de parasol monteert.
- Houd kinderen onder toezicht in de buurt van de parasol.
- Deze parasol is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Ontsteek geen vuur onder of in de buurt van de parasol!
- Dit product is getest voor thuisgebruik.
- Deze parasol is in eerste instantie bedoeld als bescherming tegen zon en niet als bescherming tegen wind.

ONDERHOUDS

Om de stof te reinigen, de stof van het frame halen door de montageaanwijzing te volgen. Volg het onderhoudsvoorschrift dat in de stof is ingenaaid.

Gebruik nooit oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen, omdat deze het materiaal kunnen verbleken en de stof kunnen beschadigen. Gebruik ook geen alkalische of zure reinigingsmiddelen of stoomreinigers om de parasol te reinigen.

Om de parasolstandaard te reinigen, deze afnemen met een milde zeepoplossing. Maak producten van kunststof of metaal nooit schoon met een sterk schoonmaakmiddel of schuurmiddel omdat deze het oppervlak kunnen verkleuren en beschadigen.

Repareren: de parasolstandaard is afgewerkt met dekkende kleurlak (poederlak). Als de verf om de een of andere reden zou loslaten, wordt de standaard niet langer beschermd en kan dit gaan roesten. Om de schade te repareren, droogmaken en schilderen om de bescherming weer aan te brengen.

OPBERGEN

Wij adviseren de parasol in te klappen wanneer deze niet wordt gebruikt en af te dekken met een waterdichte hoes. Voordat je de hoes eromheen doet, zorg ervoor dat de parasol helemaal droog en schoon is. In het laagseizoen: bewaar de afgedekte parasol op een koele en droge plaats binnenshuis.

WEGDOEN

Wanneer je de parasol wilt afdanken, bied deze dan niet aan bij het huishoudelijk afval. Breng hem naar een afvalpunt. Daar kunnen recyclebare materialen en andere materialen op een veilige manier worden gescheiden. Vraag het dichtstbijzijnde IKEA

woonwarenhuis of de plaatselijke overheid naar een afvalpunt in de buurt. Doe het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde container/bak.

Dansk

VIGTIGT!

LÆS OMHYGGELIGT, OG GEM TIL SENERE BRUG.

SIKKERHED

- **VIGTIGT!** Slå altid parasollen ned, når den ikke er i brug. Lad være med at bruge eller montere parasollen i kraftigt blæst, regn, torden- eller snevejr. Under disse vejrforhold anbefaler vi dig at slå parasollen ned eller afmontere den. Afmonter parasollen ved at følge trinnene i samlevejledningen i omvendt rækkefølge.
- **VIGTIGT!** Parasollen skal fastgøres sikkert på underlaget med HJÅLTÖN eller SVARTÖ parasolfod, der sælges separat, eller 4 blokke af beton, cement eller lignende materiale. Den anbefalede størrelse på blokkene er 50x50 cm med en samlet vægt på mindst 90 kg. Blokkene medfølger ikke, men kan købes i et byggemarked. Sørg for, at underlaget er jævnt og fast. Fordel blokkene på foden, der er udformet som et kryds, som vist i samlevejledningen.
- Monter parasollen ved at følge samlevejledningen omhyggeligt.
- Monter ikke parasollen oven på sandet, mudret eller løs jord.
- Hold børn og kæledyr på afstand, mens du monterer parasollen.
- Børn skal være under opsyn, når de er i nærheden af parasollen.
- Parasollen er kun til udendørs brug.
- Tænd ikke ild under eller i nærheden af parasollen!
- Produktet er testet til brug i private hjem.
- Parasollen er primært beregnet til beskyttelse mod sol, ikke vind.

VEDLIGEHOLDELSE

Parasoldugen rengøres ved at tage den af parasolstellet i henhold til samlevejledningen. Følg de plejeanvisninger, der er syet fast på stoffet.

Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder blegemiddel, fordi de kan blege materialet og beskadige stoffet. Brug heller ikke alkaliske eller syreholdige rengøringsmidler eller dampstråler til at rengøre parasollen.

Parasolstellet tørres af med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Det anbefales ikke at rengøre produkter af plast eller metal med et slibende eller stærkt rengøringsmiddel, da det kan misfarve eller beskadige produktets overflade.

Reparation: Parasolstellet er lakeret med pulverlakering af plast. Hvis pulverlakeringen af en eller anden grund slides af, er parasolstellet ikke beskyttet og kan ruste. Skaden kan repareres ved at tørre overfladen af og lakere den, så den er beskyttet igen.

OPBEVARING

Vi anbefaler, at du slår parasollen ned, når den ikke er i brug, og dækker den til med et vandtæt overtræk. Før du sætter overtrækket på, skal du sørge for, at parasollen er helt ren og tør. Uden for sæsonen opbevares den tildækkede parasol et køligt og tørt sted indendørs.

BORTSKAFFELSE

Hvis du vil bortskaffe parasollen, skal du ikke smide den ud som restaffald. Aflever den på en genbrugsstation. Der bliver genanvendelige materialer og andre materialer bortskaffet på en sikker måde. Spørg i dit lokale IKEA varehus eller hos de lokale myndigheder, hvor der ligger en genbrugsstation i dit område. Tom emballage skal bortskaffes i de fremsatte containere.

Íslenska

MIKILVÆGT:

LESIÐ VANDLEGA OG GEYMIÐ

Öryggisviðvörðun

- **ÁRÍÐANDI!** Lokaðu/gakktu alltaf frá sóhlífinni þegar hún er ekki í notkun. Ekki nota eða setja sóhlífina saman í roki, rigningu, þrumuveðri eða snjókomu. Í þess konar veðráttu mælum við með að fella sóhlífina saman eða ganga frá henni. Taktu hana í sundur með því að fara öfugt eftir leiðbeiningunum.
- **ÁRÍÐANDI!** Festa þarf sóhlífina í jörð með HJÁLTÖN eða SVARTÖ sóhlífarstandinum, seldir sér, eða með fjórum steyptum hellum, steypu eða svipuðu efni. Hellurnar þurfa að vera að minnsta kosti 50×50 cm (um 20×20") að stærð og að minnsta kosti 90 kg að heildarþyngd (199 lb). Hellurnar fylgja ekki en eru fánægðar í byggingavörðslunum. Vertu viss um að undirlagið sé slétt og þétt. Settu hellurnar í kringum krossbandið eins og sýnt er á skýringarmyndinni í samsetningaleiðbeiningunum.
- Settu sóhlífina saman með eftirfarandi samsetningaleiðbeiningum.
- Ekki setja sóhlífina saman á söndugum, forugum eða lausum jarðveg.
- Haltu börnum og gæludýrum í burtu meðan sóhlífin er sett saman.
- Börn þurfa að vera undir eftirliti í kringum sóhlífina.
- Þessi sóhlíf er aðeins til notkunar utandyra.
- Ekki kveikja eld undir eða nálægt sóhlífinni!
- Varan hefur verið prófuð fyrir notkun á heimilum.
- Sóhlífin er aðeins ætluð sem skuggi fyrir sól en ekki til að skýla vindi.

UMHIRÐULEIÐBEINGAR

Til að þrifa tjaldið sjálf þarftu að taka sóhlífargrindina niður með því að fylgja samsetningaleiðbeiningunum. Fylgdu þvottaleiðbeiningunum sem eru saumuð í efnið.

Notaðu aldrei þvottaefni með leysiefnum þar sem það

gæti aflitað eða skemmt efnið. Einnig er ekki mælt með því að nota lút, sýrumyndandi hreinsiefni eða gufu til að þvo sóhlífina.

Þrífðu sóhlífargrindina með mildri sápu. Ekki er mælt með því að þrifa plast- eða málmvörur með sterku hreinsiefni eða hrjúfum efnum þar sem það gæti aflitað eða skemmt yfirborðið.

Viðgerð: Sóhlífargrindin er máluð með duftlakki úr plastmálningu. Ef málningin flagnar af einhverjum ástæðum er sóhlífargrindin ekki varin og ryðmyndun möguleg. Lagfærðu grindina með því að þvo og endurmála hana.

GEYMSLA

Við mælum með að þú fellir aftur hlífina þegar hún er ekki í notkun og setjir vatnshelda ábreiðu yfir hana. Áður en ábreiðan er sett yfir skaltu vera viss um að sóhlífin sé alveg þurr og hrein. Á veturna skaltu geyma sóhlífina í ábreiðunni á þurrum og svólum stað innandyra.

FÖRGUN

Ekki henda sóhlífinni í ruslið ef þú vilt losa þig við hana. Farðu með hana í endurvinnslu. Þar er hægt að setja sumt í endurvinnslu og öðru er hægt að farga með ábyrgum hætti. Hafðu samband við IKEA verslunina eða þitt bæjarfélag fyrir upplýsingar um endurvinnslustöðvar. Hentu pakkningum vörunnar í viðeigandi endurvinnslugám.

Norsk

VIKTIG:

LES INSTRUKSJONENE NØYE OG BEHOLD DEM FOR FREMTIDIG BRUK.

SIKKERHETSANVISNING

- **VIKTIG!** Slå alltid sammen parasollen når den ikke er i bruk. Ikke bruk eller sett sammen parasollen i sterk vind, regn, tordenvær eller hvis det snør. Under disse værforholdene anbefaler vi å slå sammen eller demontere parasollen. Demonter ved å følge monteringsinstruksen i motsatt rekkefølge.
- **VIKTIG!** Parasollen må festes på plass på bakken med HJÁLTÖN eller SVARTÖ parasollfot, selges separat, eller med 4 heller i betong, sement eller lignende materiale. Anbefalte mål på hellene er 50 x 50 cm, med en samlet vekt på minst 90 kg. Heller er ikke inkludert, men kan kjøpes for eksempel i en byggevarebutikk. Sørg for at bakken er jevn og fast. Fordel hellene rundt kryssstaget som vist på illustrasjonen i monteringsinstruksene.
- Monter parasollen ved å følge monteringsinstruksen nøye.
- Ikke sett sammen en parasoll på et sted der grunnen er sandete, gjørmete eller løs.
- Hold barn og kjæledyr unna mens parasollen settes opp.
- Barn må holdes under oppsyn i nærheten av parasollen.
- Denne parasollen er kun til utendørs bruk.

- Ikke fyr opp bål under eller i nærheten av parasollen.
- Dette produktet er testet for hjemmebruk.
- Denne parasollen er primært ment for bruk som en solskjerming og ikke som beskyttelse mot vind.

VEDLIKEHOLD

For å rengjøre parasollduken, tas den av parasollstanga ved å følge monteringsanvisningen. Følg alltid vedlikeholdsrådene som er sydd fast til teksten.

Bruk aldri løsemiddelbaserte rengjøringsmidler, da disse kan bleke materialet og skade teksten. Bruk heller ikke alkaliske eller syreholdige rengjøringsmidler eller damprensere til å rengjøre parasollen.

For å rengjøre parasollstanga, vask den med en klut fuktet i mildt såpevann. Det er ikke anbefalt å rengjøre plast- eller metallprodukter med sterke rengjøringsmidler eller slipemidler, fordi det kan misfarge eller skade overflaten.

Reparasjon: Parasollstanga er pulverlakkert med en maling laget av plast. Hvis, av noen årsak, malingen løsner, er ikke lenger parasollstanga rustbeskyttet. For å reparere skaden, tørk rent og mal over for å gjenopprette beskyttelsen.

OPPBEVARING

Vi anbefaler at du lukker parasollen når den ikke er i bruk og setter på et vannrett trekk. Før trekket settes på, er det viktig å forsikre seg om at parasollen er helt tørr og ren. Utenom sesong, oppbevar den tildekkede parasollen inne på et kjølig og tørt sted.

KASTING

Hvis du ønsker å kvitte deg med parasollen, ikke kast den i søpla. Ta den med til en gjenvinningsstasjon. Der vil resirkulerbart materiale tas hånd om på en sikker måte. Spør på IKEA eller hos dine lokale myndigheter etter gjenvinningsstasjoner i ditt område. Kast emballasjen i egne gjenvinningsbeholdere.

Suomi

TÄRKEÄÄ:

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE

TURVALLISUUSOHJEET

- **TÄRKEÄÄ!** Sulje auringonvarjo aina silloin kun se ei ole käytössä. Älä käytä tai kokoa auringonvarjoa tuulisella tai sateisella säällä, myrskyssä tai lumisateessa. Suosittelemme, että tällaisissa sääolosuhteissa auringonvarjo suljetaan tai puretaan kokonaan. Voit purkaa auringonvarjon seuraamalla kokoamisohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
- **TÄRKEÄÄ!** Auringonvarjo täytyy kiinnittää tukevasti paikalleen erikseen myytävällä HJÄLTÖN- tai SVARTÖ- auringonvarjon jalalla tai neljällä betoni- tai sementtilaatalla tai vastaavalla. Laattojen tulee olla kooltaan vähintään 50x50 cm, ja niiden kokonaispainon tulee olla vähintään 90 kg.

Laattoja myyvät rautakaupat. Sijoita varjo tasaiselle ja kiinteälle alustalle. Jaa laatat jalan päälle kokoamisohjeessa olevan kuvan mukaisesti.

- Kokoa auringonvarjo noudattamalla huolellisesti kokoamisohjeita.
- Älä kokoa auringonvarjoa hiekkaisella, mutaisella tai irtonaisella maalla.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa, kun kokoat auringonvarjoa.
- Pidä lapsia silmällä auringonvarjon läheisyydessä.
- Auringonvarjo on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
- Älä sytytä tulta auringonvarjon läheisyydessä.
- Tuote on testattu kotikäyttöä silmällä pitäen.
- Auringonvarjo on tarkoitettu ensisijaisesti auringonsuojaksi, ei tuulensuojaksi.

HOITO-OHJE

Puhdistaaksesi katoksen irrota sen runko kokoamisohjeiden mukaisesti. Noudata kankaaseen ommeltuja hoito-ohjeita.

Älä koskaan käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita, jotka voivat haalistaa materiaalia ja vaurioittaa kangasta. Älä myöskään käytä alkali- tai happopitoisia puhdistusaineita tai höyrypesuria auringonvarjon puhdistamiseen.

Pyyhi auringonvarjon runko puhtaaksi miedolla puhdistusaineella. Muovi- ja metallituotteiden puhdistamiseen ei suositella voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia materiaaleja, sillä ne voivat värjätä tai vaurioittaa tuotteen pintaa.

Korjaaminen: Aurinkovarjon runko on maalattu muoviva sisälvävällä jauhemaalilla. Jos maalipinta jostakin syystä rikkoutuu, runko saattaa ruostua. Vaurion voi korjata puhdistamalla vauriokohdan ja maalaamalla sen uudelleen.

SÄILYTYS

Suosittellemme sulkemaan auringonvarjon ja laittamaan sen päälle vedenpitävän suojan silloin kun se ei ole käytössä. Ennen suojan laittamista varmista, että auringonvarjo on täysin kuiva ja puhdas. Säilytä auringonvarjoa talven ajan viileässä ja kuivassa sisätilassa.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

Jos haluat hävittää auringonvarjon, älä heitä sitä roskeen, vaan vie se kierrätyspisteelle, jossa tuotteen eri materiaalit voidaan kierrättää turvallisesti. Lisätietoa ja neuvoja paikallisista kierrätysmahdollisuuksista saat lähimmästä IKEA-tavaratalostasi. Hävitä tuotteen pakkausmateriaalit asianmukaisesti oikeisiin kierrätysastioihin.

Svenska

VIKTIGT:

LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK

SÄKERHETSANVISNINGAR

- **VIKTIGT!** Fäll alltid ned parasollet när det inte används. Använd eller montera inte parasollet i

kraftig vind, regn, åska eller snö. Vid sådant väder rekommenderar vi att du fäller ned eller monterar isär parasollet. Montera isär på omvänt sätt som parasollet monterades.

- **VIKTIGT!** Parasollet måste säkras mot marken med parasollfoten HJÄLTÖN eller SVARTÖ, säljes separat eller med 4 st plattor av betong, cement eller dylikt. Rekommenderad storlek på plattorna är 50x50 cm med en totalvikt av minst 90 kg. Plattorna ingår ej, finns för försäljning i byggvaruhandeln. Se till att marken under är plan och fast. Fördela plattorna runt om fotkorset enligt monteringsanvisningen.
- Montera parasollet genom att följa monteringsanvisningen noggrant.
- Montera inte parasollet på sandig, lerig eller lös jord.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar parasollet.
- Barn måste hållas under uppsikt i närheten av parasollet.
- Detta parasoll är endast avsett för utomhusbruk.
- Tänd inte eld under eller i närheten av parasollet!
- Den här produkten har testats för hemmabruk.
- Detta parasoll är i första hand avsett att användas som solskydd, och inte som vindskydd.

SKÖTSELRÅD

För att rengöra parasoltyget, ta bort det från parasollstativet genom att följa monteringsanvisningen. Följ de skötselråd som finns insydda i tyget.

Använd aldrig lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan bleka materialet och skada tyget. Använd inte heller alkaliska eller sura rengöringsmedel eller ångrengörare för att rengöra parasollet.

För att rengöra parasollstativet, torka rent med en mild tvållösning. Det är inte lämpligt att rengöra produkter av plast eller metall med ett starkt rengöringsmedel eller slipmaterial eftersom det kan missfärga eller skada ytan.

Reparera: Parasollstativet är pulverlackat med plastfärg. Om färgen av någon anledning skulle lossna, skyddas inte längre parasollstativet och rost kan uppkomma. För att reparera skadan, torka och måla för att återställa skyddet.

FÖRVARA

Vi rekommenderar att du fäller ned parasollet när det inte används och täcker det med ett vattentätt skydd. Innan du sätter på skyddet, se till att ditt parasoll är helt torrt och rent. Under lågsäsong, förvara det täckta parasollet på en sval och torr plats inomhus.

KASSERA

Om du vill kassera parasollet ska du inte slänga det i soporna. Ta det till en återvinningscentral. Där kan återvinningsbara material och andra material tas om hand på ett säkert sätt. Fråga ditt lokala IKEA varuhus eller lokala myndigheter om en återvinningscentral nära dig. Kassera förpackningsmaterialet i uppsamlingsbehållare.

Česky

DŮLEŽITÉ:

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE NA POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **DŮLEŽITÉ!** Slunečník po použití vždy zavřete a sundejte. Nepoužívejte a nesestavujte slunečník při silném větru, dešti, bouřkách nebo sněžení. V těchto povětrnostních podmínkách doporučujeme slunečník sundat nebo rozebrat. Slunečník rozeberete stejně, jako jste ho složili, jen kroky uvedené v návodu provádějte v opačném pořadí.
- **DŮLEŽITÉ!** Slunečník musí být zajištěn na místě pomocí podstavce slunečníku HJÄLTÖN nebo SVARTÖ, které se prodávají zvlášť, nebo pomocí 4 desek z betonu, nebo podobného materiálu. Desky musí mít min. 50x50 cm a celkovou hmotnost min. 90 kg. Desky nejsou součástí, ale můžete je zakoupit v hobby marketech. Ujistěte se, že je podkladový povrch rovný a pevný. Rozmístěte desky okolo příčné výztuhy, jak je znázorněno na obrázku v montážním návodu.
- Slunečník sestavte přesně podle pokynů k montáži.
- Nesestavujte slunečník na písčitém, bahnitém ani nestabilním povrchu.
- Při sestavování slunečníku udržujte děti a domácí mazlíčky v bezpečné vzdálenosti.
- Děti musí být v blízkosti slunečníku pod dozorem.
- Tento slunečník slouží pouze k venkovnímu použití.
- Pod slunečníkem a v jeho blízkosti nezapalujte oheň!
- Tento výrobek byl otestován pro užití v domácnosti.
- Tento slunečník přednostně slouží jako ochrana před sluncem a větrem.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ

Baldachýn můžete vyčistit tak, že jej sundáte z rámu podle návodu k montáži. Dodržujte pokyny pro údržbu všíte do látky.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědla. Mohly by vybělit materiál a poškodit látku. Na čištění slunečníku nepoužívejte ani zásadité či kyselé čisticí prostředky.

Rám slunečníku otřete vlažným mýdlovým roztokem. Nedoporučujeme čistit plastové či kovové výrobky silným čisticím prostředkem nebo abrazivním materiálem, mohou totiž způsobit poškození nebo zabarvení povrchu.

Oprava: Rám slunečníku je lakovaný plastovou barvou. V případě, že se z nějakého důvodu lak uvolní, ztrácí rám slunečníku ochranu a může rezivět. Poškození opravte tak, že místo otřete dočisti a znovu nalakujte, abyste obnovili ochranu.

UKLÁDÁNÍ

Doporučujeme, abyste slunečník po použití zavřeli a nasadili na něj nepromokavý obal. Ujistěte, že je slunečník zcela suchý a čistý, než na něj dáte obal. Mimo sezónu uložte slunečník na chladném a suchém místě uvnitř.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Až slunečník doslouží, nevyhazujte ho do popelnic/kontejnerů. Odvezte ho do sběrného dvora. Tam se můžete zbavit recyklovatelných a jiných materiálů bezpečným způsobem. Zeptejte na místním úřadě, kde se ve vašem okolí svěrný dvůr nachází. Balící materiály vyhodte do příslušných sběrných kontejnerů.

Español

IMPORTANTE

LEE ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDALAS PARA UTILIZARLAS EN EL FUTURO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- **IMPORTANTE.** Mantén la sombrilla cerrada siempre que no se esté utilizando. No la uses ni la montes cuando sopla viento fuerte, llueva, haya una tormenta eléctrica o nieve. Si se da alguna de estas condiciones climáticas, te recomendamos cerrar o incluso desmontar la sombrilla. Para desmontarla, sigue las instrucciones de montaje en orden inverso.
- **IMPORTANTE.** La sombrilla debe quedar bien sujeta y estable en el suelo. Para ello, se puede utilizar la base para sombrilla HJÄLTÖN o SVARTÖ, que se venden por separado, o poner cuatro bloques de hormigón, cemento u otro material similar de 50x50 cm cada uno y un peso mínimo de 90 kg. Estos bloques no vienen con el producto, pero suelen encontrarse fácilmente en las tiendas de bricolaje. Comprueba que el suelo esté plano y firme, y distribuye los bloques alrededor de la cruceta, tal y como se muestra en el ejemplo de las instrucciones de montaje.
- Monta la sombrilla siguiendo las instrucciones de montaje fielmente.
- No montes la sombrilla en suelos arenosos, embarrados o poco compactos.
- Los niños y las mascotas no deben acercarse a la sombrilla mientras se está montando.
- Los niños que estén cerca de la sombrilla deben ser vigilados por un adulto.
- Esta sombrilla está exclusivamente destinada al uso en exteriores.
- No enciendas fuego debajo o cerca de la sombrilla.
- Este producto ha sido probado para un uso doméstico.
- Esta sombrilla está diseñada para dar sombra, no para proteger del viento.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para limpiar el toldo, sepáralo de la estructura de la sombrilla siguiendo las instrucciones de montaje. Sigue las instrucciones de mantenimiento que están cosidas en el tejido.

No utilizar nunca productos de limpieza con disolventes, ya que pueden decolorar el material y estropear el tejido. No utilizar productos ácidos o alcalinos ni chorros de vapor para limpiar la sombrilla. Para limpiar la estructura de la sombrilla, pásale

un paño humedecido en agua jabonosa. No se recomienda limpiar los productos de plástico y metal con un limpiador fuerte o un material abrasivo, ya que pueden decolorarlos y estropear la superficie.

Reparación: la estructura de la sombrilla está pintada con un revestimiento en polvo de pintura plástica. Si este revestimiento se desprende, la estructura de la sombrilla dejará de estar protegida y podría oxidarse. Para repararla, límpiala y vuelve a pintarla para que quede protegida.

ALMACENAJE

Se recomienda cerrar la sombrilla cuando no se utilice y taparla con una funda impermeable. Antes de ponerle la funda, asegúrate de que la sombrilla está totalmente seca y limpia. En invierno, guarda la sombrilla tapada en un espacio interior seco y fresco.

CÓMO DESHACERSE DEL PRODUCTO

Si quieres deshacerte de la sombrilla, no la tires a la basura. Llévala a un punto limpio, donde se depositan por separado y de forma segura todo tipo de residuos, tanto reciclables como no reciclables. Pregunta en tu tienda IKEA más cercana o en tu Ayuntamiento dónde se encuentra el punto limpio más próximo. Tira el material del embalaje en los contenedores adecuados.

Italiano

IMPORTANTE!

LEGGI ATTENTAMENTE E CONSERVA PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- **IMPORTANTE!** Chiudi sempre l'ombrellone quando non lo usi. Non usarlo o montarlo in caso di forte vento, pioggia, temporale o neve. Con queste condizioni atmosferiche, ti consigliamo di chiudere o smontare l'ombrellone. Per smontarlo, segui le istruzioni di montaggio partendo dalla fine.
- **IMPORTANTE:** l'ombrellone deve essere fissato al suolo con la base per ombrellone HJÄLTÖN o SVARTÖ, venduta separatamente, oppure con 4 lastre di calcestruzzo, cemento o materiale simile. La misura consigliata delle lastre è di 50x50 cm, con un peso totale di almeno 90 kg. Le lastre non sono incluse, ma possono essere acquistate presso i negozi di bricolage. Verifica che il terreno sia in piano e stabile. Posiziona le lastre intorno al sostegno a croce come mostrato nelle istruzioni di montaggio.
- Monta l'ombrellone seguendo attentamente le istruzioni di montaggio.
- Non montare l'ombrellone su un terreno sabbioso, fangoso o non compatto.
- Tieni i bambini e gli animali a distanza durante il montaggio dell'ombrellone.
- È necessaria la supervisione di un adulto quando i bambini si trovano vicino all'ombrellone.
- Questo ombrellone è destinato esclusivamente all'uso in ambienti esterni.
- Non accendere fuochi sotto o vicino all'ombrellone.

- Questo prodotto è stato testato per un uso domestico.
- Questo ombrellone è stato sviluppato principalmente per proteggere dal sole e non dal vento.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Per pulire il telo dell'ombrellone, togliilo dalla struttura seguendo le istruzioni di montaggio. Rispetta le indicazioni per la manutenzione cucite sul tessuto.

Non usare mai detergenti a base di solventi per pulire l'ombrellone, poiché possono scolorire il materiale e danneggiare il tessuto. Inoltre, non utilizzare detergenti alcalini o acidi e pulitori a vapore.

Usa una soluzione di acqua e sapone poco concentrata per pulire la struttura per ombrellone. Non pulire i prodotti in plastica o metallo con un detergente concentrato o con un materiale abrasivo, perché la superficie potrebbe scolorirsi o danneggiarsi.

Un rivestimento plastico a polvere protegge la struttura per ombrellone. Se il rivestimento dovesse staccarsi, la struttura per ombrellone potrebbe arrugginirsi. Per riparare il danno e ripristinare la protezione, puliscilo e rivernicialo.

CONSERVAZIONE

Chiudi l'ombrellone e proteggilo con una custodia impermeabile quando non lo usi. Assicurati che sia completamente asciutto e pulito prima di coprirlo. Quando non lo utilizzi, soprattutto per lunghi periodi, conserva l'ombrellone nella custodia in un ambiente interno fresco e asciutto.

SMALTIMENTO

Se devi smaltire l'ombrellone, non gettarlo nella spazzatura, ma portalo in un punto di riciclaggio dei rifiuti, dove tutti i materiali, riciclabili e non, vengono smaltiti in modo sicuro. Chiedi al tuo negozio IKEA o all'amministrazione locale dove si trova il centro di raccolta nella tua zona. Smaltisci i materiali usati per l'imballaggio negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Magyar

FONTOS!

ALAPOSAN OLVASD EL, ÉS ŐRIZD MEG!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- **FONTOS!** Mindig zárd be/vedd le a napernyőt, ha épp nem használod. Erős szél, eső, vihar vagy hóesés esetén ne használj vagy próbáld meg összeszerelni! Rossz időjárás esetén csukd be vagy szereld szét a napernyőt. Szétszereléskor kövesd az összeszerelési útmutató lépéseit, visszafelé haladva.
- **FONTOS!** A napernyőt a földhöz kell rögzíteni a HJÁLTÖN vagy SVARTÖ napernyő talp (külön kapható) vagy 4 db beton-/cementlap segítségével. A lapok minimális mérete 50x50 cm legyen és súlyuk összesen legalább 90 kg. A lapokat a csomagolás nem tartalmazza, egy helyi barkácsáruházból szerezheted be őket.

Bizonyosodj meg róla, hogy a talaj teljesen egyenes és szilárd. A lapokat tedd a keresztmerezítők köré az összeszerelési útmutatónak megfelelően.

- A napernyőt az útmutató alapján szereld össze.
- Az összeszerelést ne végezd homokos, saras vagy laza talajon.
- Az összeszerelés idejére tartsd távol a napernyőtől a gyerekeket és a házi kedvenceket.
- Gyermekek számára a napernyő használata felnőtt felügyelete mellett ajánlott.
- A napernyő kizárólag kültéren használható.
- Ne gyújts tüzet a napernyő alatt vagy annak közelében.
- Ezt a terméket otthoni használatra teszteltük.
- Ez a napernyő első sorban a napsütés ellen véd, szélfogónak nem ideális.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A baldachin tisztításához vedd le azt a napernyő vázáról az összeszerelési útmutatót követve. Kövesd a szövet címkéjén lévő ápolási útmutatót.

Soha ne használj oldószeres vegyszereket, mivel ezek kifehérethetik és károsíthatják a szövetet. Lúgos vagy savas vegyszereket, valamint gőzölőt se használj a napernyő tisztításakor.

A váz tisztításához használj enyhén tisztítószerez oldatot. A műanyagból és fémből készült termékeket nem ajánlott erős vegyszerekkel vagy csiszolópapírral tisztítani, mivel ezek elszíneződést okozhatnak és kárt tehetnek a termékben.

Javítás: A napernyő váza műanyag festékkel porfestett. Ha a legfelső réteg lekopna, a váz berozsásodhat, ezért ennek elkerülése érdekében, szükség esetén töröld tisztára és ferd újra.

TÁROLÁS

Azt javasoljuk, hogy zárd össze a napernyőt, ha épp nem használod és tegyél rá egy vízálló huzatot. A huzat felhelyezése előtt bizonyosodj meg arról, hogy a napernyő teljesen száraz és tiszta. A meleg évszak végeztével a huzattal borított napernyőt egy hűvös és száraz helyen tárold, beltéren.

Ha már nincs rá szükséged:

Ha már nincs szükség a napernyőre, ne helyezd a hulladékgyűjtőbe, hanem keress fel egy hulladék újrahasznosítási központot, amennyiben lakóhelyeden van ilyen. Itt a termék újrahasznosítható részeit elkülönítik, a maradék anyagokat pedig biztonságosan semmisítik meg. További információ érdekében keresd fel a hozzád legközelebb eső IKEA áruházat vagy a helyi önkormányzatot. A csomagolóanyagokat a megfelelő hulladékgyűjtőbe szelektáld.

Polski

WAŻNE:

PRZECZYTAJ UWAGNIĘ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **WAŻNE!** Parasol należy zawsze zamknąć/złożyć, jeżeli nie jest używany. Parasola nie należy

używać ani montować podczas silnego wiatru, deszczu, burzy lub opadów śniegu. W takich warunkach pogodowych zalecamy złożenie lub zdemontowanie parasola. Demontaż należy wykonać w odwrotnej kolejności niż montaż.

- **WAŻNE!** Parasol należy zabezpieczyć dziemi za pomocą sprzedawanej osobno podstawy parasola HJÄLTÖN lub SVARTÖ lub za pomocą 4 płyt z betonu, cementu lub podobnego materiału. Płyty muszą mieć wielkość min. 50x50 cm (20x20") i łączną wagę min. 90 kg (199 funtów). Płyty nie są wliczone w cenę, ale można je kupić w sklepach budowlanych. Upewnij się, że podłoże jest równe i twarde. Rozłóż płyty wokół krzyżaka, jak pokazano na ilustracji w instrukcji montażu.
- Zmontuj parasol postępując dokładnie według instrukcji montażu.
- Nie montuj parasola na piaszczystej, błotnistej lub luźnej glebie.
- Dzieci i zwierzęta domowe powinny przebywać z dala od miejsca montowania parasola.
- Dzieci przebywające w pobliżu parasola należy nadzorować.
- Parasol jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno zapalać ognia pod parasolem lub w jego pobliżu!
- Produkt został przetestowany do użytku domowego.
- Parasol jest przede wszystkim przeznaczony do użytkowania jako osłona przeciwsłoneczna, a nie jako ochrona przed wiatrem.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI

Aby wyczyścić czaszę parasola należy zdjąć ją z ramy parasola, postępując według instrukcji montażu. Postępuj zgodnie z instrukcjami pielęgnacji, które są doszyte do tkaniny.

Nigdy nie należy używać detergentów na bazie rozpuszczalnika, ponieważ mogą wybielać materiał i uszkodzić tkaninę. Do czyszczenia parasola nie należy również używać żadnych alkalicznych lub kwaśnych detergentów ani myjek parowych.

Aby wyczyścić ramę parasola należy przetrzeć ją łagodnym roztworem mydła. Nie zaleca się czyszczenia plastikowych lub metalowych produktów silnym środkiem czyszczącym lub ściernym, ponieważ może to spowodować przebarwienie lub uszkodzenie powierzchni.

Naprawa: Rama parasola jest malowana farbą proszkową. Jeśli z jakiegoś powodu farba zejdzie, rama parasola nie będzie chroniona, co może spowodować pojawienie się rdzy. Aby naprawić uszkodzenie należy je wytrzeć do czysta i ponownie zamalować, aby przywrócić ochronę.

PRZECZYSZCZANIE

Jeżeli parasol nie jest używany, zalecamy zamknąć go i założyć na niego wodoodporny pokrowiec. Przed założeniem pokrowca należy upewnić się, że parasol

jest całkowicie suchy i czysty. Poza sezonem parasol należy przechowywać w pokrowcu w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

RECYKLING

Zużytego parasola nie wolno wyrzucać do śmieci. Należy zabrać go do stacji recyklingu. Można tam bezpiecznie zdeponować surowce wtórne i inne materiały. Sprawdź w swoim sklepie IKEA lub u lokalnych władz, gdzie zlokalizowana jest najbliższa stacja recyklingu. Opakowania należy wyrzucać do odpowiednich pojemników.

Eesti

OLULINE:

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE JUHEND ALLES

OHUTUSMÄRKMED

- **OLULINE!** Sulge või pane päikesevari alati alla, kui see pole kasutusel. Ära kasuta või pane üles päikesevarju tugeva tuule, vihma, äikesetormi või lumesaju ajal. Sellistes ilmastikutingimustes soovitage päikesevarju sulgeda või koost lahti võtta. Päikesevarju lahti võtmiseks järgi koostehiiseid vastupidises järjekorras.
- **TÄHELEPANU!** Päikesevarju peab kinnitama kindlasse kohta maapinnal HJÄLTÖN või SVARTÖ päikesevarju alusega, mida müüakse eraldi, või nelja betoon- või tsementplaadiga. Võib kasutada ka plaate, mis on tehtud mõnest muust sarnasest materjalist. Plaadid peavad olema 50x50 cm ja nende kogukaal peaks olema min 90 kg. Plaadid või tahvlid ei ole tootega kaasas, kuid need on saadaval ehituspoodides. Veendu, et maapind oleks tasane ja jalge all kindel. Jaota plaadid ristklambri ümber nii, nagu on paigaldusjuhendis näidatud.
- Pane päikesevari kokku järgides hoolikalt koostehiiseid.
- Ära pane päikesevarju kokku liivasel, mudasel või lahtisel pinnasel.
- Hoia lapsed ja koduloomad eemal, kui paned päikesevarju üles.
- Lastel peab päikesevarju läheduses silma peal hoidma.
- See päikesevari on mõeldud vaid õues kasutamiseks.
- Ära süüta lõket päikesevarju all või selle läheduses!
- Seda toodet on testitud kodus kasutamiseks.
- See päikesevari on mõeldud pakkuma kaitset päikese eest ega pole mõeldud kaitsma tuule eest.

HOOLDUSJUHENDID

Baldahiini puhastamiseks eemalda see päikesevarju raamilt, järgides koostehiiseid. Järgi hooldusjuhiseid, mis on õmmeldud kanga külge.

Ära kunagi kasuta lahusepõhiseid pesuvahendeid, kuna need võivad materjali pleegitada ja kahjustada. Samuti ära kasuta leelis- või happepõhiseid puhastusvahendeid või auruteid päikesevarju puhastamiseks.

Pāikesevarju raami puhastamiseks pūhi seda ōrnatomelise seebilahusega. Me ei soovita puhastada plast- vōi metalltooteid tugevatomelise puhastusvahendi vōi abrasiivse materjaliga, kuna need vōivad kahjustada toodet vōi selle vārvi.

Parandamine: pāikesevarju raam on vārvid plastvārvid pulberkattega. Kui kate peaks mingil pōhjusel maha tulema, ei ole pāikesevarju raam kaitstud ja vōib hakata roostetama. Kahju parandamiseks pūhi see puhtaks ja vārvi uuesti, et kaitse taastada.

SĀLITAMINE

Soovitame pāikesevarju sulgeda, kui see pole kasutusel, ja katta see veekindla kattega. Enne katte ūmberpanemist, veendiet, et pāikesevari on tāiesti kuiv ja puhas. Aastaajal, mil pāikesevari pole kasutusel, hoia kaetud varju kuivas ja jahedas kohas siseruumides.

JĀĀTMETE KŌRVALDAMINE

Kui sooviet pāikesevarju āra visata, āra viska seda prūgi hulka. Vii see ūmbertōōtlusjaama. Seal tōōdeldakse ūmbertōōdeldavad materjalid ūmber ja ūlejāānūd materjalid kŌrvaldatakse turvaliselt. Kūsi kohalikust IKEA poest vōi kohalike ametiē kāest, kus asub ūmbertōōtlusjaam sinu piirkonnas. Viska āra pakkematerjal selleks ette nāhtud konteinerisē.

Latviešu

SVARĪGI:

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

DROŠĪBAS NORĀDES

- **SVARĪGI!** Kad saulesargu nelieto, tam vienmēr jābūt aizvērtam/nolaistam. Nemontē saulesargu, ja pūš spēcīgs vējš, līst, ir pērkona negaiss vai snieg. Šādos laikapstākļos iesakām saulesargu aizvērt vai izjaukt. Saulesargu var izjaukt, veicot montāžas soļus pretējā secībā.
- **UZMANĪBU!** Saulesargs ir jānofiksē ar HJĀLTŌN vai SVARTŌ saulesarga pamatni (jāiegādājas atsevišķi) vai ar 4 betona vai līdzīga materiāla plāksnēm. Plāksnēm ir jābūt vismaz 50x50 cm (20x20") un kopā jāsver vismaz 90 kg (199 lb). Plāksnes komplektā nav iekļautas, taču tās var iegādāties būvmateriālu veikalos. Pirms saulesarga nostiprināšanas jāpārlicinās, ka pamatne ir līdzena un stingra. Plāksnes novietojiet ap krustveida stiprinājumu tā, kā norādīts ilustrācijā montāžas instrukcijā.
- Montējot saulesargu, precīzi ievērojiet montāžas instrukciju.
- Neuzstādi saulesargu smiltīs, dubļos vai irdenē augsnē.
- Saulesarga montāžas laikā tuvumā nedrīkst atrasties bērni un mājdzīvnieki.
- Bērni nedrīkst atrasties saulesarga tuvumā bez uzraudzības.
- Saulesargs paredzēts tikai lietošanai ārā.

- Zem saulesarga vai tā tuvumā nedrīkst dedzināt uguni!
- Prece ir testēta atbilstoši standartiem, ko attiecina uz ikdienas lietošanu mājās.
- Saulesargs ir paredzēts aizsardzībai pret sauli, nevis pret vēju.

KOPŠANAS INSTRUKCIJA

Lai notīrītu saulesarga pārsegu, noņem to atbilstoši norādījumiem montāžas instrukcijā. Ņem vērā kopšanas norādījumus, kas norādīti audumam piešūtājā etiķetē.

Neizmanto tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāja bāzes, jo tie var iedarboties kā balinātāji un bojāt audumu. Saulesarga tīrīšanai neizmanto arī sārmus vai skābes saturošus līdzekļus un tvaika tīrītājus.

Tīri saulesarga kātu un spiekus ar saudzīgu, ūdenī atšķaidītu tīrīšanas līdzekli. Plastmasas un metāla priekšmetus nav ieteicams tīrīt ar spēcīgiem tīrīšanas līdzekļiem un abrazīviem materiāliem, jo tie var bojāt krāsu un virsmu.

Labošana: saulesarga karkasam ir pulvera pārklājums. Ja tas nolobās, karkass vairs nav aizsargāts, un var rasties rūsa. Lai novērstu bojājumus, notīri karkasu un pārkrāso to, lai atjaunotu aizsardzību.

GLABĀŠANA

Ja saulesargu nelieto, iesakām to aizvērt un uzlikt ūdensnecaurīdīgu pārvalku. Pirms pārvalka uzlikšanas pārbaudi, vai tas ir pilnīgi sauss un tīrs. Ja saulesargu nelieto ilgstoši, glabā to vēsā, sausā telpā.

UTILIZĀCIJA

Ja saulesargs savu ir nokalpojis, neizmet to atkritumos, bet nodod pārstrādei. Tā pārstrādājamos materiālus var lietderīgi izmantot, bet citus – droši iznīcināt. IKEA veikalā vai vietējā pašvaldībā noskaidrojiet, kur atrodas tuvākais atkritumu šķirošanas laukums. Iepakojumu izmet atbilstošajos atkritumu šķirošanas konteineros.

Lietuvių

SVARBU:

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE
TOLIMESNIAI NAUDOJIMUI

SAUGUMO INFORMACIJA

- **SVARBU!** Visada suskleiskite nenaudojamą skėtį. Nenaudokite jo, kai labai vėjuota, stipriai lyja, sniega ar kiliu perkūnija. Esant tokiam orui rekomenduojame skėtį suskleisti arba išmontuoti. Jį išmontuosite atvirkštiniu surinkimui būdu.
- **SVARBU!** Būtinai pasirūpinkite, kad lauko skėtis tvirtai stovėtų ant grindų ar žemės paviršiaus – tam naudokite lauko skėčio pagrindą HJĀLTŌN arba SVARTŌ (parduodama atskirai) arba prispauskite jį keturiiais betono, cemento ar panašios medžiagos blokais, kurių bendras svoris turi būti mažiausiai 90 kg, o vieneto dydis mažiausiai 50x50 cm. Blokaui nepriededami, bet jų galima įsigyti statybinių medžiagų parduotuvėse. Grindų ar žemės paviršius

turi būti lygus ir tvirtas. Blokus dėkite ant pagrindo skersinių kraštų taip, kaip pavaizduota surinkimo nurodymuose.

- Surinkite skėtį tiksliai pagal instrukcijas.
- Surinkimui nesirinkite smėlėto, purvino paviršiaus, minkštos žemės.
- Nepirleiskite arti vaikų ir augintinių, kol ruošiate skėtį.
- Nepalikite vaikų be priežiūros šalia skėčio.
- Šis skėtis skirtas naudoti tik lauke.
- Nedekite ugnies šalia skėčio ar po juo!
- Atlikti buitinio naudojimo bandymai.
- Pirminė šio skėčio paskirtis – suteikti pavėsį nuo saulės; jis nėra skirtas saugoti nuo vėjo.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Kupolą valykite nuėmę nuo rėmo (žiūrėkite surinkimo instrukcijas). Priežiūros taisyklės nurodytos prie kupolo prisiūtoje etiketėje.

Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, nes jie gali išbalinti ir pažeisti audinį. Taip pat nenaudokite šarminių, rūgštinių valiklių, garinių valymo prietaisų.

Skėčio rėmui valyti užtenka vandens ir muilo. Metalinių ir plastikinių paviršių nerekomenduojama valyti stipriais ir (ar) šveičiamųjų dalelių turinčiais valikliais, nes jie gali išblukinti, apgadinti paviršius.

Remontas: skėčio rėmas nudažytas miltelinio būdu. Jei dažai ima trupėti, skėtis tampa mažiau atsparus rūdims, todėl tą pastebėjus reikėtų jį švariai nušluostyti ir perdažyti.

SANDĖLIAVIMAS

Rekomenduojame nenaudojamą skėtį suskleisti ir įkišti į vandeniui nelaidų uždangalą. Uždangalą užmaukite tik ant visiškai sauso, švaraus skėčio. Pasibaigus sezonui uždengtą skėtį laikykite sausoje vėsioje vietoje patalpoje.

ŠALINIMAS

Nebereikalingą skėtį nemeskite į buitinių šiukšlių konteinerį, geriau atiduokite perdirbti. Perdirbimo centre jis bus tinkamai ir saugiai pašalintas. Pasidomėkite atliekų perdirbimo vietomis netoli jūsų. Pakuotę šalinkite pagal ženklus ant jos.

Portugues

IMPORTANTE:

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA FUTURA CONSULTA

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- **IMPORTANTE!** Mantenha sempre o guarda-sol fechado e deitado quando não o estiver a utilizar. Não utilize nem monte o guarda-sol com ventos fortes, chuva, tempestade ou neve. Nestas condições climáticas, recomendamos que feche ou desmonte o guarda-sol. Desmonte seguindo as instruções de montagem.
- **IMPORTANTE!** O guarda-sol deve ser bem fixado no chão com a base para guarda-sol HJÄLTÖN ou

SVARTÖ, vendida em separado, ou com 4 placas de betão, cimento ou um material semelhante. Recomendamos que as placas tenham, no mínimo, 50x50cm, com um peso total mínimo de 90kg. As placas não estão incluídas mas pode adquiri-las numa loja de bricolagem. Certifique-se de que o chão está nivelado e é firme. Distribua as placas no suporte em X, conforme mostrado na imagem nas instruções de montagem.

- Monte o guarda-sol seguindo cuidadosamente as instruções de montagem.
- Não monte o guarda-sol sobre areia, lama ou cascalho.
- Ao montar o guarda-sol, mantenha as crianças e os animais de estimação afastados.
- As crianças devem ser supervisionadas sempre que estiverem perto do guarda-sol.
- Este guarda-sol é apenas para uso no exterior.
- Não faça fogueiras debaixo ou perto do guarda-sol!
- Este produto foi testado para uso doméstico.
- Este guarda-sol foi criado para proteger do sol e não do vento.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para limpar o toldo, desmonte-o da estrutura do guarda-sol seguindo as instruções de montagem. Siga as instruções de manutenção que se encontram cosidas no tecido.

Nunca utilize produtos de limpeza com solventes, pois podem descolorar o material e danificar o tecido. Também não utilize produtos de limpeza alcalinos ou ácidos nem jatos de vapor para limpar o guarda-sol.

Limpe a estrutura do guarda-sol com uma solução com detergente suave. Não é recomendado limpar artigos em plástico ou metal com produtos de limpeza agressivos ou materiais abrasivos, pois podem desbotar ou danificar a superfície.

Reparação: a estrutura do guarda-sol é pintada com um revestimento em pó de tinta plástica. Se este revestimento sair, a estrutura deixará de estar protegida e poderá enferrujar. Para restaurar a proteção, limpe e volte a pintar.

ARRUMAÇÃO

Recomendamos que feche o guarda-sol quando não estiver a ser utilizado e que o cubra com uma capa impermeável. Antes de o cobrir, certifique-se de que o guarda-sol está completamente seco e limpo. Entre estações, guarde o guarda-sol coberto num espaço interior fresco e seco.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Quando chegar a altura, não deite o guarda-sol no lixo. Leve-o a um centro de reciclagem, onde os materiais recicláveis e outros materiais possam ser eliminados em segurança. Peça informações na sua loja IKEA ou a autoridades locais sobre os locais de reciclagem da sua área. Elimine os materiais de embalagem nos contentores adequados.

Româna

IMPORTANT!

CITEȘTE CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE ȘI PĂSTREAZĂ-LE PENTRU A LE CONSULTA ULTERIOR.

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

- **IMPORTANT!** Înceide întotdeauna umbrela când nu se folosește. Nu folosi sau asambla umbrela pe vreme de vânt puternic, ploaie, furtună sau zăpadă. În aceste condiții meteorologice, recomandăm plierea sau dezasamblarea umbrelei. Dezasamblează umbrela respectând etapele de asamblare în sens invers.
- **IMPORTANT!** Umbrela trebuie fixată pe sol cu baza pentru umbrelă HJÄLTÖN sau SVARTÖ, care se vinde separat, sau cu 4 plăci din beton, ciment sau din materiale similare. Dimensiunea plăcilor trebuie să fie minim 50x50 cm cu o greutate totală de min. 90 kg. Plăcile nu sunt incluse, dar sunt disponibile la un magazin de bricolaj. Verifică dacă solul este nivelat și tare. Distribuie plăcile în jurul unei console în X așa cum se arată în ilustrația din instrucțiunile de asamblare.
- Asamblează umbrela respectând instrucțiunile de asamblare cu atenție.
- Nu asambla umbrela pe sol cu nisip, noroi sau instabil.
- Nu lăsa copiii sau animalele de companie în apropiere atunci când asamblezi umbrela.
- Copiii trebuie să fie supravegheați când se află în apropierea umbrelei.
- Această umbrelă este doar pentru uz extern.
- Nu aprinde focul sub sau lângă umbrelă!
- Acest produs a fost testat pentru uz domestic.
- Această umbrelă este concepută în principal ca protecție pentru soare, nu pentru vânt.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Pentru a șterge umbrela, scoate cadrul umbrelei respectând instrucțiunile de asamblare. Citește instrucțiunile de îngrijire menționate pe material. Nu folosi niciodată detergenți pe bază de solventi deoarece pot înălbi și deteriora materialul. De asemenea, nu folosi detergenți alcalini sau acizi sau dispozitive cu aburi pentru a curăța umbrela.

Pentru a curăța cadrul umbrelei, șterge-l cu o soluție de apă și săpun delicat. Nu se recomandă curățarea produselor din plastic sau metal cu un material de curățare puternic sau abraziv deoarece poate decolora sau deteriora suprafața.

Reparare: Cadrul umbrelei este vopsit cu o vopsea plastificată cu strat de pudră. Dacă dintr-un anumit motiv stratul se exfoliază, umbrela nu mai este protejată și poate rugini. Pentru a repara dauna, șterge cadrul și vopsește-l din nou pentru a reface stratul de protecție.

DEPOZITARE

Recomandăm închiderea umbrelei când nu se folosește și acoperirea acesteia cu o husă impermeabilă. Înainte de a pune husa, verifică dacă

umbrela este complet închisă și curată. În extrasezon, depozitează umbrela acoperită într-un loc uscat și răcoros în interior.

ELIMINARE

Dacă dorești să elimini umbrela, nu o arunca la gunoi, du-o la un centru de reciclare unde materialele reciclabile și alte materiale pot fi eliminate în siguranță. Întreabă la magazinul IKEA sau autoritatea locală unde se află un centru de reciclare în zona ta. Aruncă ambalajul în containerele de colectare furnizate.

Slovensky

DÔLEŽITÉ:

POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY

- **DÔLEŽITÉ!** Vždy slnečník zatvorte a zložte, keď ho práve nepoužívate. Nepoužívajte ho alebo nemontujte, keď fúka silný vietor alebo sú búrky či sneží. V týchto poveternostných podmienkach ho odporúčame zložiť alebo rozmontovať. Rozmontujete ho presne opačným postupom krokov, akým ste ho zmontovali.
- **DÔLEŽITÉ!** Slnečník musí byť pripevnený na zemi pomocou základne slnečníka HJÄLTÖN alebo SVARTÖ, ktoré predávame samostatne alebo pomocou 4 dosiek z betónu, cementu alebo podobného materiálu. Dosky musia byť min. 50x50 cm a mať celkovú hmotnosť min. 30 kg. Dosky nie sú súčasťou balenia, ale možno ich zakúpiť v obchode pre domácich majstrov. Uistite sa, že je povrch vyrovnaný a pevný. Umiestnite dosky okolo krížovej výstuže, ako je to znázornené na obrázku v montážnom návode.
- Slnečník zmontujete podľa nasledovného postupu.
- Slnečník nemontujte na pieskových, bahnitých povrchoch alebo uvoľnenej pôde.
- Keď montujete slnečník, postarajte sa o to, aby neboli v blízkosti deti či domáce zvieratá.
- Deti v blízkosti slnečníka musia byť pod dozorom.
- Slnečník je len na použitie vonku.
- Pod slnečníkom a v jeho blízkosti nezapaľujte oheň.
- Výrobok je testovaný na použitie v domácnostiach.
- Slnečník je primárne určený na tienenie, nie ako ochrana pred oknom.

Pokyny na starostlivosť

Ak chcete vyčistiť plátno, zložte ho z rámu slnečníka podľa návodu na montáž. Postupujte podľa inštrukcií na štítku priloženom k látku.

Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na základe rozpúšťadiel, pretože môžu vybieliť materiál a poškodiť látku. Na čistenie nepoužívajte žiadne zásadité či kyslé čistiace prostriedky alebo vysokotlakové čističe.

Rám slnečníka vyčistíte tak, že ho utriete handričkou a jemným mydlovým roztokom. Plastové alebo kovové časti neodporúčame čistiť abrazívnymi materiálmi, pretože môžu odfarbiť alebo poškodiť povrch.

Оправка: Рам слeнeчникa je нaтрeтý прáшкoвoу плaстoвoу фaрбoу. Ак сa з нeякeгo дoвoдy фaрeбнý нáтeр знiщí, прeстaнe бýтí рáм чрáнeнý и мoжe зhrдzавiет. Абы стe тoмy зaбрáнилi, рiпáднe пoщкoдeнiя вýчиститe, утритe а нáтeр oбнoвтe.

СКЛАДОВАНИЕ

Одporýчaмe вáм, абы стe слeнeчник в рiпáдe, жe ho прáвe нeпoужiвaтe злoжилi а дaли нáшнo вoдeoдoлнý потáх. Прeдтýм, жe потáх нaсaдiтe сa уиститe, жe слeнeчник je сyчýй а чiстýй. Мимo сезoнý слeнeчник склaдуйтe в члaднýчýх а сyчýчýх рiстoрoчх внýтрi.

ОДПАД

Ак си жeлáтe збaвiт' сa слeнeчникa, нeвыхaдзуйтe ho. Одрeзтe ho дo рeцýклaчнeгo цeнтрa. Тaм зрeцýклýжý рeцýклoвaтeлнe чaстi а звысoк мoжy бeзпeчнe вoдiтi. Опытáйтe сa в oбчoднoмo дoмe IKEA aлeбo в мiстнoм рeцýклaчнoм цeнтрe. Обaлoвe мaтeриáлы вoдiтe дo прiслýшнýчýх кoщoв нa рeцýклoвaнýй oдпaд.

Български

ВАЖНО!

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

ЗАПИСКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- **ВАЖНО!** Когато не използвате чадъра го дръжте затворен и в легнало положение. Не използвайте и не събирайте чадъра в условия на силни ветрове, дъжд, гръмотевична буря или сняг. В тези условия ви препоръчваме да сгънете чадъра и да го разглобите. Разглобете го, като следвате упътването отзад напред.
- **ВАЖНО!** Чадърът трябва стабилно да се закрепя на земята с помощта на основа за чадър HJÁLTÖN или SVARTÖ, която се продава отделно, или с 4 плочи от бетон, цимент или сходен материал. Препоръчителния размер на плочите трябва да е мин. 50x50 см (около 20x20") и да са с общо тегло от мин. 90 kg (199 lb). Плочите не са включени, но се продават в железарски магазини. Уверете се, че земята е равна и твърда. Разпределете плочите около кръстатата основа така, както е показано на изображението в инструкциите за монтаж.
- Сглобете чадъра, като внимателно използвате инструкциите за монтаж.
- Не монтирайте чадъра върху пясъчна, кална или рохкава почва.
- Дръжте децата и домашните любимци надалек докато монтирате чадъра.
- Децата трябва да се наглеждат, когато са около чадъра.
- Този чадър е направен за употреба на открито.
- Не запалвайте огън под или близо до чадъра.
- Този продукт е тестван за домашна употреба.
- Чадърът е предназначен да се използва срещу слънчева светлина, а не, като защита срещу вятър.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За да почистите покривалото за чадър го свалете от рамката, като следвате инструкциите за монтаж. Почистете го, като се придържате към инструкциите за поддръжка, които са защити в материята.

Никога не използвайте почистващи препарати на основата на разтворители, тъй като те могат да избелят материала и да повредят тъканта. Също така не използвайте алкални или киселинни почистващи препарати.

За да почистите рамката на чадъра, я избършете с мекаспунен разтвор. Не се препоръчва да почиствате продукти от пластмаса или метал със силен препарат или абразивни материали, тъй като могат да обезцветят или повредят повърхността.

Поправка: Рамката на чадъра е прахово боядисана с боя за пластмаса. Тя няма да е защитена и може да ръждяса, ако по някаква причина боята падне. За да поправите щетата, почистете рамката и я пребоюдисайте, така ще възстановите защитата ѝ.

СЪХРАНЕНИЕ

Препоръчваме ви да сгъвате чадъра и да го покривате с непромокаем калф, когато не се използва. Преди да поставите калфа се уверете, че чадърът е напълно сух и чист. След края на сезона приберете покрития чадър на хладно и сухо място в закрито помещение.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Ако желаете да се отървете от чадъра не го изхвърляйте в боклука. Отнесете го в център за рециклиране. Там, материалите, които са за рециклиране и другите материали ще се унищожат по безопасен начин. За да разберете, къде във вашия район можете да го предадете за рециклиране, попитайте местните власти или в най-близкия магазин на IKEA.

Hrvatski

VAŽNO:

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

SIGURNOSNE NAPOMENE

- **VAŽNO!** Potrebno je uvijek zatvoriti/spustiti suncobran kada nije u upotrebi. Ne upotrebljavati i ne sastavljati suncobran kada je jak vjetar, pada kiša, grmi ili pada snijeg. U tim vremenskim uvjetima preporučujemo sklapanje suncobrana ili rastavljanje prema uputama za sastavljanje obrnutim redom.
- **VAŽNO!** Suncobran se mora pričvrstiti za podlogu HJÁLTÖN ili SVARTÖ osnovama suncobrana, prodaju se zasebno, ili pomoću 4 ploče od betona, cementa ili sličnog materijala. Preporuča se da ploče budu dimenzija 50 x 50 cm i ukupne težine min. 90 kg. Ploče nisu priložene uz proizvod, ali su dostupne u specijaliziranim trgovinama. Podloga

mora biti ravna i tvrda. Ploče se mora rasporediti oko ukrštene potpore kao što je prikazano na slici u uputama za sastavljanje.

- Pažljivo sastaviti suncobran prema uputama za upotrebu.
- Ne sastavljati suncobran na pjeskovitoj, blatnjavoj ili rastresitoj podlozi.
- Djeca i kućni ljubimci trebaju biti udaljeni dok se suncobran sastavlja.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kad su u blizini suncobrana.
- Suncobran je samo za vanjsku upotrebu.
- Ne paliti vatru ispod suncobrana ili u njegovoj blizini!
- Proizvod je ispitivan za upotrebu u kućanstvu.
- Suncobran je prvenstveno namijenjen za zaklon od sunca, a ne kao zaštita od vjetra.

UPUTE ZA NJEGU

Za čišćenje platna, skinuti okvir suncobrana prema uputama za sastavljanje. Pratiti upute za njegu ushvene u tkaninu.

Nikada ne upotrebljavati sredstva za čišćenje na osnovi razrjeđivača jer mogu izbijeliti materijal i oštetiti tkaninu. Također ne upotrebljavati ni alkalna ili kisela sredstva za čišćenje i paročištače.

Čistiti okvir suncobrana brisanjem blagom sapunskom mješavinom. Ne preporučuje se čišćenje plastičnih ili metalnih proizvoda jakim sredstvima za čišćenje ili abrazivnim materijalom jer se može skinuti boja ili oštetiti površina.

Popravlak: okvir suncobrana premazan je slojem praha plastične boje. Ako se iz nekog razloga taj sloj skine, okvir suncobrana nije zaštićen i može doći do hrđanja. Za popravak štete, očistiti i prebojati površinu za ponovnu zaštitu.

ODLAGANJE

Preporučujemo da se suncobran sklopi kada nije u upotrebi i da se na njega stavi voodootporna navlaka. Prije stavljanja navlake, suncobran mora biti potpuno suh i čist. Izvan sezone suncobran s navlakom čuvati na hladnom i suhom mjestu u zatvorenom.

BACANJE

Ako se suncobran baca, ne ga bacati u smeće. Odnijeti ga na recikliranje: materijali koji se mogu reciklirati i drugi materijali tamo će se sigurno odložiti. Obratiti se robnoj kući IKEA ili nadležnim službama za informaciju o tome gdje se u blizini predmeti mogu reciklirati. Pakiranje odložiti u predviđene kontejnere.

Ελληνικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σημειώσεις ασφαλείας

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Πάντα να κλείνετε την ομπρέλα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Μη χρησιμοποιείτε ή συναρμολογείτε την ομπρέλα όταν φυσάει,

βρέχει, χιονίζει ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Σε αυτές τις συνθήκες προτείνουμε να διπλώνετε την ομπρέλα ή να την αποσυναρμολογείτε. Την αποσυναρμολογείτε ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης ανάποδα.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Η ομπρέλα πρέπει να στερεωθεί στη θέση της στο έδαφος με τη βάση ομπρέλας HJÄLTÖN ή SVARTÖ, που πωλείται χωριστά ή με 4 πλάκες από σκυρόδεμα, τσιμέντο ή παρόμοιο υλικό. Το συνιστώμενο μέγεθος των πλακών είναι 50x50 cm (περίπου 20x20") με συνολικό βάρος τουλάχιστον 90 kg. Δεν περιλαμβάνονται πλάκες, αλλά είναι διαθέσιμες σε κατάστημα DIY. Βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι επίπεδο και σταθερό. Μοιράστε τις πλάκες γύρω από το σταυρωτό στήριγμα όπως φαίνεται στις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Συναρμολογήστε την ομπρέλα ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Μη συναρμολογείτε την ομπρέλα σε ασταθές έδαφος, ή σε έδαφος με άμμο, λάσπη.
- Όσο συναρμολογείτε την ομπρέλα κρατήστε παιδιά και κατοικίδια σε απόσταση.
- Να επιβλέπετε τα παιδιά γύρω από την ομπρέλα.
- Αυτή η ομπρέλα είναι για χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην ανάβετε φωτιά κάτω από η κοντά στην ομπρέλα!
- Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί για οικιακή χρήση.
- Αυτή η ομπρέλα είναι κυρίως για προστασία από τον ήλιο και όχι για προστασία από τον αέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Για να καθαρίσετε το στέγαστρο, αφαιρέστε το από τον σκελετό της ομπρέλας ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες φροντίδας που είναι ραμμένες πάνω στο ύφασμα.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση διαλύτη, καθώς μπορεί να ξεθωριάσει το υλικό και να φθαρεί το ύφασμα. Επίσης μη χρησιμοποιείτε αλκαλικά ή όξινα καθαριστικά ή ατμοκαθαριστές για να καθαρίσετε την ομπρέλα.

Για να καθαρίσετε τον σκελετό της ομπρέλας, σκουπίστε με διάλυμα από ήπιο καθαριστικό. Δεν συνιστάται να καθαρίσετε τα πλαστικά ή μεταλλικά προϊόντα με ένα ισχυρό καθαριστικό ή διαβρωτικό προϊόν, καθώς μπορεί να αποχρωματίσουν ή να φθείρουν την επιφάνεια.

Επιδιόρθωση: Ο σκελετός της ομπρέλας είναι βαμμένος με πλαστικό βερνίκι, με επένδυση από σκόνη πολυεστέρα. Αν για κάποιο λόγο η επίστρωση φύγει, ο σκελετός της ομπρέλας δεν προστατεύεται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σκουριά. Για να επιδιορθώσετε την φθορά, καθαρίστε την επιφάνεια και περάστε μια στρώση βερνίκι για να είναι προστατευμένος ο σκελετός.

Αποθήκευση

Προτείνουμε να κλείνετε την ομπρέλα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και να τη σκεπάζετε με ένα αδιάβροχο κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι η ομπρέλα σας είναι τελείως στεγνή

και καθαρή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που δεν τη χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε την καλυμμένη ομπρέλα σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος, σε εσωτερικό χώρο.

Διάθεση

Αν θέλετε να πετάξετε την ομπρέλα, μην την πετάξετε στα σκουπίδια, αλλά σε κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί τα ανακυκλώσιμα και άλλα υλικά μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια. Ρωτήστε στο τοπικό σας κατάστημα IKEA ή στην τοπική αρχή, που υπάρχει κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης για τα υλικά συσκευασίας της ομπρέλας.

Русский

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ!** Всегда закрывайте/складывайте зонт, когда вы им не пользуетесь. Не используйте и не устанавливайте зонт в ветреную, дождливую погоду, в грозу или снегопад. При таких погодных условиях мы рекомендуем сложить и разобрать зонт. Разберите следуя инструкции по сборке в обратном порядке.
- **ВНИМАНИЕ!** Зонт от солнца должен быть закреплен на земле с помощью опоры ЭЛЬТОН или СВАРТО (продаются отдельно) или с помощью 4 плит из бетона, цемента или подобного материала. Рекомендованный размер плит мин. 50x50 см (прибл. 20x20"), общий вес мин. 90 кг (199 фунтов). Плиты не прилагаются; их можно приобрести в строительных магазинах. Поверхность должна быть ровной и твердой. Распределите плиты вокруг основания зонта, как показано на рисунке в инструкции по сборке.
- Соберите зонт, следуя инструкции по сборке.
- Не собирайте зонт на песчаной, глинистой или рыхлой почве.
- Дети и животные не должны находиться рядом в процессе сборки зонта.
- Дети должны находиться около зонта под присмотром взрослых.
- Этот зонт предназначен только для использования на улице.
- Не зажигайте огонь под зонтом или около него.
- Этот товар протестирован для бытового использования.
- Зонт предназначен только для защиты от солнца, но не от ветра.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Чтобы очистить купол, снимите его с каркаса зонта, следуя инструкции по сборке. Инструкции по уходу представлены на вшивном ярлыке на ткани купола.

Никогда не используйте моющие средства на основе растворителей, так как они могут обесцветить и повредить ткань. Кроме того, не используйте щелочные или кислотные моющие средства или паровые очистители для очистки зонта.

Используйте слабый мыльный раствор, чтобы протереть каркас зонта. Не рекомендуется использовать для изделий из пластика и металла сильные чистящие средства и абразивные вещества, т. к. это может привести к обесцвечиванию и повреждению поверхности. Восстановление: каркас зонта покрыт полимерной порошковой краской. Если покрытие стерлось, каркас не защищен от ржавчины. Чтобы восстановить защитный слой, протрите поверхность и нанесите краску.

ХРАНЕНИЕ

Когда зонт не используется, мы рекомендуем закрывать его и надевать водостойкий чехол. Прежде чем надеть чехол, убедитесь, что зонт сухой и чистый. В межсезонье зонт в чехле следует хранить в сухом прохладном помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании эксплуатации не утилизируйте зонт с бытовыми отходами. Отнесите его в центр переработки. Там перерабатываемые и неперерабатываемые материалы могут быть безопасно утилизированы. Обратитесь в магазин IKEA или местные органы власти за информацией о центре переработки в вашем регионе. Упаковочные материалы выбрасывайте в соответствующие контейнеры для сортировки мусора.

Українська

ВАЖЛИВО:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПРИМІТКА З БЕЗПЕКИ

- **ВАЖЛИВО!** Закривайте парасоль, коли вона не використовується. Не використовуйте і не складайте парасоль, якщо дме сильний вітер, йде дощ, сніг або гроза. За таких умов рекомендовано скласти або згорнути парасоль. Складіть, виконавши дії у зворотному порядку.
- **ВАЖЛИВО!** Закріпіть парасоль на поверхні за допомогою HJÄLTÖN ХЬЕЛЬТЕН або SVARTÖ СВАРТЕ основи парасолі від сонця, що продаються окремо, або ж 4 плит з бетону, цементу або подібного матеріалу. Рекомендований розмір плит – 50x50 см, загальна мінімальна вага - 90 кг. Плити не додаються, але їх можна придбати у будівельних магазинах. Перевірте, щоб поверхня землі була рівною та твердою. Плити потрібно розмістити навколо основи парасолі, як зображено в інструкції із складання.

- Щоб скласти парасолю, уважно слідуйте інструкціям зі складання.
- Не складайте парасолю на піску, брудній або ж пухкій поверхні.
- Тримайте парасолю подалі від дітей та тварин.
- Діти повинні використовувати парасолю лише під наглядом дорослих.
- Парасоля призначена для використання лише на вулиці.
- Не розводьте вогнище під або поряд з парасолею.
- Виріб пройшов перевірку для використання вдома.
- Парасоля перш за все призначена для захисту від сонця, а не вітру.

ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ

Щоб очистити полог, зніміть його з каркаса парасолі відповідно до інструкцій зі складання. Слідуйте інструкціям з догляду, що вказані на ярлику, вшитому в тканину.

Не використовуйте мийні засоби на основі розчинників, вони можуть відбілити тканину та пошкодити її. Не використовуйте лужні та кислотні мийні засоби або ж піскострунні апарати, щоб очистити парасолю.

Щоб очистити раму парасолі, протріть її м'яким мильним розчином. Не рекомендується чистити пластмасові або металеві вироби за допомогою агресивних засобів чищення або матеріалів з абразивними елементами, адже можна знебарвити або пошкодити поверхню.

Ремонт: Каркас парасолі має порошкове полімерне покриття. Якщо з якоїсь причини, покриття втратило цілісність, каркас парасолі не захищений і може заржавіти. Щоб усунути пошкодження, протріть насухо та пофарбуйте повторно, щоб відновити захист.

ЗБЕРІГАННЯ

Складіть парасолю, коли не використовуєте, та надягніть водозахисний чохол. Перед тим як надягнути чохол, перевірте, щоб парасоля була чистою та сухою. Взимку зберігайте парасолю у прохолодному і сухому приміщенні.

УТИЛІЗАЦІЯ

Якщо бажаєте утилізувати парасолю, не потрібно викидати її у смітник. Віднесіть її до центру переробки. Там, матеріали, що можна переробити, будуть відправлені на переробку, а інші - безпечно утилізовані. Отримати інформацію про найближчі центри переробки відходів можна у магазині IKEA або у місцевих органах управління. Пакувальні матеріали можна залишити у відповідних контейнерах.

Srpski

VAŽNO:

PROČITAJ PAŽLJIVO I SAČUVAJ ZA UBUDUĆE

BEZBEDNOSNE NAPOMENE

- **VAŽNO!** Uvek zatvori/spusti suncobran kada nije u upotrebi. Ne upotrebljavaj i ne sastavljaj suncobran kada je vetar jak, pada kiša, grmi ili pada снег. U tim vremenskim uslovima preporučujemo da sklopiš suncobran ili da ga rastaviš sledeći uputstva za sastavljanje obrnutim redom.
- **VAŽNO!** Suncobran se mora pričvrstiti za podlogu HJALTÓN ili SVARTÓ osnovom suncobrana, koja se prodaje zasebno, ili pomoću 4 gredice od betona, cementa ili sličnog materijala. Gredice moraju biti najmanje 50x50 cm i ukupne težine min. 90 kg. Gredice se ne dobijaju uz proizvod, ali su dostupne u specijalizovanim prodavnicama. Podloga mora biti ravna i tvrda. Gredice rasporedi oko ukrštene potpore kao što je prikazano na slici u uputstvu za sastavljanje.
- Pažljivo sastavi suncobran prema uputstvima za upotrebu.
- Ne sastavljaj suncobran na peskovitoj, blatnjavoj ili rastresitoj podlozi.
- Decu i kućne ljubimce treba držati podalje dok se suncobran sastavlja.
- Decu treba nadgledati kada su u blizini suncobrana.
- Suncobran je samo za upotrebu na otvorenom.
- Ne loži ispod suncobrana ili u njegovoj blizini!
- Proizvod je ispitan za upotrebu u domaćinstvu.
- Suncobran je prvenstveno namenjen da služi kao zaklon od sunca, a ne kao zaštita od vetra.

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE

Da očistiš platno, skini ga s okvira suncobrana sledeći uputstvo za sastavljanje. Pridržavaj se uputstva za održavanje uživenog u tkaninu.

Nikada ne upotrebljavaj sredstva za čišćenje na osnovi razređivača jer mogu izbeliti materijal i oštetiti tkaninu. Takođe ne upotrebljavaj ni alkalna ili kisela sredstva za čišćenje i paročistače.

Da očistiš okvir suncobrana, prebriši ga blagim rastvorom sapuna. Ne preporučuje se da čistiš plastične ili metalne proizvode jakim sredstvima za čišćenje ili abrazivnim materijalom jer se može skinuti boja ili oštetiti površina.

Popravka: okvir suncobrana obrađen je slojem praha plastične boje. Ako se iz nekog razloga taj sloj skine, okvir suncobrana nije zaštićen i može doći do korozije. Da popraviš štetu i povratiš zaštitu, očisti i preboj površinu.

ODLAGANJE

Preporučujemo da suncobran sklopiš kada nije u upotrebi i da mu staviš vodootpornu navlaku. Pre nego što staviš navlaku, suncobran mora biti sasvim suv i čist. Izvan sezone suncobran s navlakom čuvaj na hladnom i suvom mestu u zatvorenom.

BACANJE

Ako želiš da baciš suncobran, ne odlaži ga u smeće. Odnesi ga na recikliranje: materijali koji se mogu reciklirati i drugi materijali tamo će se bezbedno odložiti. Obrati se robnoj kući IKEA ili nadležnim

službama da saznaš gde se u tvojoj blizini predmeti mogu reciklirati. Pakovanje odloži u predvidene kontejnere.

Slovenščina

POMEMBNO:

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA NADALJNO UPORABO.

VARNOSTNA NAVODILA

- **POMEMBNO!** Kadar senčnika ne uporabljaš, ga vedno zapri ali pospravi. Senčnika ne uporablaj ali postavljaš ob močnem vetru, dežju, nevihti ali sneženju. V teh vremenskih pogojih priporočamo, da senčnik položiš oziroma ga razstaviš. Pri razstavljanju sledi korakom za montažo v obratnem vrstnem redu.
- **POMEMBNO!** Vrtni senčnik pritrdi na tla s HJÄLTÖN ali SVARTÖ podstavkom za senčnik, ki je naprodaj ločeno, ali s štirimi betonskimi oz. cementnimi ploščami ali ploščami iz podobnega materiala. Priporočena velikost plošč je 50x50 cm, s skupno težo najmanj 90 kg. Plošče niso priložene in jih običajno lahko kupiš v trgovini za domače mojstre. Prepričaj se, da so tla ravna in kompaktna. Plošče razporedi okoli križnega podstavka, kot je prikazano na sliki v navodilih za montažo.
- Pri montaži senčnika natančno upoštevaj priložena navodila.
- Ne sestavljaj senčnika na peščeni, blatni ali zemljeni podlagi.
- Med nameščanjem senčnika prepreči dostop otrokom in hišnim ljubljencem.
- Otroke vedno nadzoruj, ko so v bližini senčnika.
- Ta senčnik je primeren samo za uporabo na prostem.
- V bližini senčnika ali pod njim ne neti ognja!
- Ta izdelek je testiran za domačo uporabo.
- Ta senčnik je namenjen zaščiti pred soncem, ni namenjen zaščiti pred vetrom.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Če želiš očistiti ponjavo, jo odstrani z ogrodja senčnika, kot je opisano v navodilih za montažo. Nato upoštevaj navodila za vzdrževanje, ki so priložena na tkanino.

Nikoli ne uporablaj čistil na osnovi topil, saj lahko ta razbarvajo material in poškodujejo tkanino. Prav tako ne uporablaj bazičnih ali kislinskih čistil ali parnih čistilnikov.

Ogrodje senčnika prebrši z blago milnico.

Odsvetujemo čiščenje plastičnih ali kovinskih delov z močnimi čistili ali grobimi pripomočki, saj se lahko površina pri tem razbarva ali poškoduje.

Popravilo: Ogrodje senčnika je prašno barvano s plastično barvo. Na mestih kjer barva odstopi ali se opraska, ogrodje ni zaščiteno in lahko zarjavi. Poškodovano mesto očisti in ponovno prebarvaj, da preprečiš nastanek rje.

SHRANJEVANJE

Kadar ni v uporabi, priporočamo, da senčnik zapreš in

prekriješ z vodoodporno prevleko. Preden namestiš prevleko, preveri, da je senčnik popolnoma suh in čist. Izven sezone pokrit senčnik shrani v hladen in suh zaprt prostor.

ODLAGANJE

Ko želiš odvreči senčnik, ga ne odloži med običajne odpadke, ampak ga odnesi v zbirni center, kjer bodo materiale ustrezno reciklirali in varno odložili. V svoji najbližji trgovini IKEA ali pri pristojni službi povprašaj za lokacijo najbližjega zbirnega mesta za recikliranje. Embalažo razvrsti v ustrezne zabojnike.

Türkçe

ÖNEMLİ:

DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERDE GEREKEBİLECEĞİ İÇİN SAKLAYINIZ.

Güvenlik önlemleri

- **ÖNEMLİ!** Kullanılmadığı zamanlarda şemsiye her zaman kapatılıp yere indirilmelidir. Şemsiyeyi şiddetli rüzgarlarda, yağmurda, fırtınada veya kar yağışında kullanmayın veya monte etmeyin. Bu hava koşullarında, şemsiyenin katlanması veya sökülmesini öneririz. Kurulum adımlarını tersten izleyerek demonte edin.
- **ÖNEMLİ!** Şemsiye, ayrı olarak satılan HJÄLTÖN veya SVARTÖ şemsiye tabanı ile veya 4 adet plaka beton, çimento veya benzeri malzeme ile zemine sabitlenmelidir. Taban parçalarının boyutu 50x50 cm (yaklaşık 20x20") ve toplam ağırlığı minimum 90 kg (199 lb) olmalıdır. Taban parçaları pakete dahil değildir. Ancak yapı marketlerinden temin edebilirsiniz. Zeminin düz ve sağlam olduğundan emin olun. Parçaları, montaj talimatlarında gösterildiği gibi çapraz desteğin etrafına dağıtın.
- Montaj talimatlarını dikkatlice takip ederek şemsiyeyi monte edin.
- Şemsiyeyi kumlu, çamurlu veya gevşek toprak üzerinde monte etmeyin.
- Şemsiyeyi kurarken çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Çocuklar şemsiyenin etrafında oldukları sürece gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu şemsiye sadece dış mekan kullanımı içindir.
- Şemsiyenin altında veya yakınında hiçbir türlü ateş yakılmamalıdır!
- Bu ürün ev tipi kullanım için test edilmiştir.
- Bu şemsiye rüzgar koruması olarak değil, güneşlik olarak kullanılması amacıyla üretilmiştir.

BAKIM TALİMATLARI

Gölgeliği temizlemek için, montaj talimatlarına uyarak şemsiye çerçevesinden çıkarın. Kumaşa dikilen bakım talimatlarını uyun.

Çözücü bazlı deterjanları asla kullanmayın, çünkü bunlar malzemeyi ağartabilir ve kumaşa zarar verebilir. Ayrıca, şemsiyeyi temizlemek için herhangi bir alkali, asidik deterjan veya buhar püskürtücü kullanmayın. Şemsiye çerçevesini temizlemek için hafif sabunlu bir solüsyonla silin. Plastik veya metal ürünleri güçlü bir

temizleyici veya aşındırıcı bir malzeme ile temizlemeniz tavsiye edilmez. Yüzey renk değiştirebilir veya zarar görebilir.

Onarım: Şemsiye çerçevesi, plastik bazlı toz boya ile boyalıdır. Herhangi bir nedenle kaplama sökülürse, şemsiye çerçevesi korunamaz ve paslanabilir. Hasarı onarmak için, silin ve pastan korunması için yeniden boyayın.

Saklama

Şemsiyeyi kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız ve su geçirmez kılıf ile muhafaza etmeniz önerilir. Kılıfı yerleştirmeden önce şemsiyenizin tamamen kuru ve temiz olduğundan emin olun. Şemsiyeyi kullanmadığınız sezon boyunca iç mekanda serin ve kuru bir yerde saklayın.

Atık

Şemsiyenizi çöp kutusuna atmayın. Geri dönüşüm merkezine götürmeniz tavsiye edilir. Burada geri dönüştürülebilir malzemeler ve diğer malzemeler güvenle imha edilebilir. Bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinin nerede bulunduğunu yerel IKEA mağazasına veya yerel yönetim merkezlerine danışabilirsiniz.

中文

重要提示:

请仔细阅读并妥善保存作为日后参考。

安全提醒

- **重要事项!** 不用时, 请将阳伞合上并妥善存放。请勿在大风、下雨、雷暴或下雪时使用或组装阳伞。如遇上述天气, 建议将阳伞折叠或拆卸。拆卸时, 请参照安装说明上的步骤逆序操作。
- **重要须知!** 务必使用HJÄLTÖN 赫尔顿 或SVARTÖ 斯瓦尔多 阳伞底座 (须另购) 或4块混凝土砖、水泥板或类似材料的板子, 将阳伞固定于地面上。建议所用固定板子尺寸不得小于50x50cm (约20x20英寸) 且总重量最小为90公斤 (199磅)。本产品包装不含固定板子, 可前往DIY用品店购买。确保放置阳伞的地面平整、坚实。按照组装说明, 将固定板摆放在横撑周围。
- 安装阳伞时, 请仔细参照安装说明。
- 请勿在沙地、泥地, 或松软的地上组装阳伞。
- 组装阳伞时, 请远离儿童或宠物。
- 儿童必须在成人的监管下, 使用阳伞。
- 该阳伞仅供户外使用。
- 请勿在阳伞下或附近点燃任何火源!
- 本产品经过测试, 适合家庭使用。
- 该阳伞的主要功能为遮阳而非防风。

保养说明

清洁凉篷时, 请按照组装说明拆卸伞架。请遵循缝制在布料上的保养说明。

严禁使用溶剂型洗涤剂, 避免材料褪色, 损害布料。另外, 严禁使用酸性、碱性洗涤剂, 或蒸汽喷射设备清洁阳伞。

清洁伞架时, 请使用中性皂液擦拭。强效清洁剂或研磨性材料可能使器具表面褪色或受损, 不建议用于清洁塑料或金属家具。

维修: 伞架上涂有一层塑料粉末漆, 如果出于某种原因导致涂层脱落, 则未经保护的伞架可能会生锈。维修时, 请将表面擦拭干净并重新上漆, 修复保护层。

存放

阳伞不用时, 我们建议你将其收起并罩上防水保护套。罩上保护套之前, 请确保阳伞完全干燥而且干净整洁。不常用时, 请将罩有保护套的阳伞置于室内凉爽干燥的地方。

丢弃

如果你打算丢弃阳伞, 请勿扔进垃圾桶。请将其送至回收中心。回收中心可安全处理可回收材料和其他材料。请至当地宜家商场或权威机构, 询问你所在地区的回收中心地址。包装材料请丢弃在提供的收纳盛具内。

繁中

重要訊息:

請仔細閱讀，並妥善保存，以供參考。

安全事項

- **重要訊息!** 不使用時請務必收合陽傘。在強風、雨天的氣候下, 不可使用或安裝陽傘。在這些氣候環境下, 建議收合或拆下陽傘。請以安裝方式的相反順序拆下陽傘。
- **重要資訊!** 此陽傘須加裝HJÄLTÖN或SVARTÖ陽傘基座(需另購)或四塊混凝土、水泥或類似材質的厚板, 固定在地上使用。厚板尺寸最小是50x50公分, 總重量最少是90公斤。產品不含厚板, 請另行購買。確保地面平坦、穩固, 依照組裝說明的圖示, 將厚板圍繞交叉桿擺放。
- 請仔細依照組裝說明安裝陽傘。
- 不可在沙地、泥地或鬆軟的土壤上安裝陽傘。
- 安裝陽傘時務必遠離兒童及寵物。
- 兒童待在陽傘附近時, 大人務必在一旁看顧。
- 此陽傘僅適合戶外使用。
- 請勿在陽傘底下或附近生火。
- 此產品經測試, 適合家庭使用。
- 此陽傘的主要用途為遮陽, 不提供防風功能。

保養說明

清潔頂篷時, 請依照組裝說明拆下陽傘支架上的頂篷。根據布料標籤上的保養說明清潔。

切勿使用含溶劑的清潔劑, 以免使材料脫色, 損害布料。亦不可使用鹼性或酸性清潔劑或蒸氣機清洗陽傘。

清潔陽傘支架時, 用抹布沾溫水和清潔劑擦拭乾淨。不可使用強力清潔劑或含研磨成分的清潔劑清潔塑膠或金屬產品, 以免造成褪色或傷害表面。

維護: 陽傘支架表面塗上塑膠粉末塗料。如果塗料剝落, 陽傘支架的表面失去防護功能, 可能造成生鏽。可將表面擦拭乾淨, 再塗上塗料, 以恢復防護功能。

存放

不使用時請收合陽傘, 並覆蓋防水遮罩。覆蓋遮罩前, 請先確認陽傘完全乾淨、乾燥。長時間不使用時, 請將覆蓋遮罩的陽傘存放在涼爽、乾燥的室內。

丟棄處理

如需丟棄陽傘, 不可直接丟入垃圾桶。請送至資源回收場, 分類可回收材料及其他材料。可詢問IKEA分店或當地機關資源回收場地址。請將包裝材料丟入產品外包裝箱。

한국어

중요:

꼼꼼히 읽고 추후 참고를 위해 잘 보관해 주세요.

안전 참고 사항

- **중요!** 사용하지 않을 때에는 항상 파라솔을 접거나 내려주세요. 강풍이 불거나 비가 오거나 천둥이 치거나 눈이 올 때는 파라솔을 사용하거나 조립하지 마세요. 이러한 날씨 조건에서는 파라솔을 내려두거나 분해해 두는 것이 좋습니다. 설치 단계를 역순으로 따라 분해하세요.
- **중요!** 파라솔은 별도로 판매되는 HJÄLTÖN 엘턴 또는 SVARTÖ 스바르퇴 파라솔 받침, 혹은 콘크리트, 시멘트 또는 유사한 재료로 만든 4 개의 슬래브로 바닥에 고정해야 합니다. 슬래브의 권장 크기는 50x50cm (약 20x20")이며 총 무게는 최소 90kg (199 파운드)입니다. 슬래브는 제품에 포함되어 있지 않지만 DIY 매장에서 구입할 수 있습니다. 반드시 지면이 평평하고 단단한지 확인하세요. 조립 설명서에 명시된 대로 크로스 브레이스 주위에 슬래브를 배치하세요.
- 조립 설명서를 꼼꼼하게 따라서 파라솔을 조립합니다.
- 모래나 진흙 토양이나 부스리지는 토양에서는 파라솔을 조립하지 마세요.
- 파라솔을 설치할 때는 아이와 반려동물이 가까이 오지 못하게 하세요.
- 파라솔 주변에서는 아이를 주의 깊게 지켜보셔야 합니다.
- 이 파라솔은 실외에서만 사용하세요.
- 파라솔 아래나 근처에서 불을 피우지 마세요!
- 이 제품은 가정용으로 테스트를 거쳤습니다.
- 이 파라솔은 바람을 막는 것이 아니라 주로 햇빛을 가리는 용도로 제작되었습니다.

취급주의사항

캐노피를 세척하려면 조립 설명서에 따라 파라솔 프레임에서 분리해 주세요. 패브릭에 달려 있는 관리 방법을 따르세요. 용제 기반 세제는 소재를 표백시키고 패브릭을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마세요. 또한 파라솔 세척에 알칼리성이나 산성 세제 또는 증기 분사기를 사용하지 마세요.

파라솔 프레임을 세척하려면 순한 비누물로 닦아주세요. 플라스틱이나 금속 제품을 강한 세척제나 연마재로 닦을 경우 표면이 변색되거나 손상될 수 있으므로 이러한 물질을 사용하지 마세요.

수리: 파라솔 프레임은 플라스틱 페인트의 파워코팅을 이용해 도색되어 있습니다. 어떤 이유로든 코팅이 벗겨지면 파라솔 프레임이 보호되지 않아 녹이 쓸 수 있습니다. 손상을 수리하려면 깨끗하게 닦고 페인트를 다시 칠해 다시 보호하세요.

보관

사용하지 않을 때는 파라솔을 접어서 방수 커버로 덮어두는 것이 좋습니다. 커버를 덮기 전에 파라솔이 완전히 건조되어 있고 깨끗한지 확인하세요. 사용하지 않는 계절에는 파라솔을 커버로 덮어 시원하고 건조한 실내에 보관하세요.

폐기

파라솔을 폐기하려는 경우 그냥 쓰레기통에 버리시면 안 됩니다. 재활용 센터에 가져다 주세요. 센터에서는 재활용 소재와 기타 소재가 안전하게 폐기될 수 있습니다. 해당 지역의 재활용 시설 위치는 현지 IKEA 매장이거나 현지 당국에 문의하세요. 포장재는 제공된 수거용 컨테이너에 폐기하세요.

日本語

重要:

この説明書をよくお読みになり、必要なときにご覧いただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

- **重要!** 使わないときは必ずパラソルを閉じてください。強風時や降雨時、雷雨時、降雪時は、パラソルを使用したり組み立てたりしないでください。このような気象条件では、パラソルをたたくか分解することをおすすめします。分解するときは、組み立てるときと逆の手順で行ってください。
- **重要!** パラソルは、別売りのHJÄLTÖN/イェルトーンまたはSVARTÖ/スヴァルトー パラソル土台、あるいはコンクリートやセメントなどの厚板4枚で地面に固定してください。厚板1枚のサイズは50×50cm (約20×20インチ) 以上、重さは合計90kg (199ポンド) 以上必要です。厚板は付属していません。ホームセンターなどで買い求めください。パラソルは必ず平らな固い地面に設置してください。組み立て説明書で示しているように、クロスブレースの周囲に厚板を置いてください。
- 組み立て説明書をよく読み、指示に従ってパラソルを組み立ててください。
- 砂地、泥地、ゆるい土の上では、パラソルを組み立てないでください。
- パラソルの設置中は子どもやペットを近寄らせないでください。
- パラソルのそばではお子さまから目を離さないでください。
- このパラソルは屋外専用です。
- パラソルの下や近くでは火気厳禁です!
- 本製品は家庭用の試験に合格しています。
- このパラソルは、風だけではなく日よけとして使用することを主な目的としています。

お手入れ方法

キャンピーをお手入れするときは、組み立て説明書に従ってパラソルフレームからキャンピーを外してください。生地に縫い付けてあるお手入れ方法にそってお手入れしてください。

溶剤型洗剤は絶対に使用しないでください。素材を漂白し、生地を傷めるおそれがあります。またアルカリ洗剤や酸性洗剤、スチームクリーナーも使用しないでください。

パラソルのフレームのお手入れは、薄い石けん水を含ませた布で拭いてください。プラスチック製や金属製の製品のお手入れに、強い洗剤や研磨材を使用することは推奨しません。表面が変色したり損傷するおそれがあります。

補修方法: パラソルフレームには粉体樹脂コーティングが塗布されています。なんらかの理由でコーティングが剥がれると、防錆性が失われてパラソルフレームが錆びるおそれがあります。コーティングを補修する場合は、補修個所をきれいに拭いたあと、防錆用コーティング剤を塗ってください。

保管

使わないときはパラソルをたたんで防水カバーを掛けることをおすすめします。カバーを掛ける前に、パラソル

が完全に乾いていること、汚れていないことを確認してください。オフシーズンは、カバーを掛けたパラソルを屋内の涼しい乾燥した場所に保管してください。

廃棄方法

パラソルを廃棄する場合は、一般ゴミとして捨てずに、資源ゴミの集積所に出してください。リサイクル可能な素材と他の素材を安全に廃棄できます。お住いの地域の資源ゴミ集積所の場所については、お近くのイケアストアが地元自治体にお問い合わせください。梱包材は指定の収集容器や収集場所に廃棄してください。

Bahasa Indonesia

PENTING:

BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK REFERENSI

CATATAN KEAMANAN

- **PENTING!** Selalu tutup/letakkan payung saat tidak digunakan. Jangan menggunakan atau merakit payung saat angin kencang, hujan, badai petir atau jika sedang turun salju. Dalam kondisi cuaca seperti ini, kami sarankan untuk melipat atau membongkar payung. Bongkar dengan mengikuti langkah-langkah pengaturan secara terbalik.
- **PENTING!** Tenda payung harus diamankan di tempatnya dengan dasar tenda payung HJÄLTÖN atau SVARTÖ, dijual terpisah, atau dengan 4 pelat beton, semen atau bahan serupa. Pelat tersebut harus min. 50x50 cm (sekitar 20x20") dan dengan berat total min. 90 kg (199 lb). Pelat tidak disertakan tetapi tersedia di toko bangunan. Pastikan tanah rata dan kokoh. Bagikan pelat di sekitar penahan silang seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di petunjuk perakitan.
- Merakit payung dengan mengikuti instruksi perakitan dengan saksama.
- Jangan merakit payung di tanah berpasir, berlumpur, atau lembek.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan saat merakit payung.
- Anak-anak harus diawasi di sekitar payung.
- Payung ini hanya untuk penggunaan di luar ruangan.
- Jangan nyalakan api di bawah atau di sekitar payung!
- Produk ini telah diuji untuk penggunaan domestik.
- Payung ini dikhususkan untuk digunakan sebagai tempat berteduh dan bukan sebagai pelindung dari angin.

PETUNJUK PEMELIHARAAN

Untuk membersihkan kanopi, lepaskan dari bingkai payung dengan mengikuti instruksi perakitan. Ikuti instruksi perawatan yang dijahit pada kain.

Jangan pernah menggunakan deterjen dengan bahan dasar pelarut karena dapat memutihkan bahan dan merusak kain. Selain itu, jangan gunakan deterjen alkali atau asam atau blaster uap untuk membersihkan payung.

Untuk membersihkan bingkai payung, bersihkan dengan larutan sabun lembut. Tidak disarankan untuk

membersihkan produk plastik atau logam dengan pembersih yang kuat atau bahan abrasif karena dapat mengubah warna atau merusak permukaan.

Perbaikan: Bingkai payung dicat dengan lapisan cat plastik. Jika lapisannya lepas, bingkai payung tidak terlindungi dan dapat menyebabkan karat. Untuk memperbaiki kerusakan, lap bersih dan cat ulang untuk mengembalikan perlindungan.

PENYIMPANAN

Kami menyarankan Anda menutup payung saat tidak digunakan dan memasang sarung tahan air. Sebelum memasang sarung, pastikan payung Anda benar-benar kering dan bersih. Selama musim hujan, simpan sarung payung di tempat yang sejuk dan kering di dalam ruangan.

PEMBUANGAN

Jika Anda ingin membuang payung, jangan membuangnya di tempat sampah. Bawa ke pusat daur ulang. Di sana, bahan yang dapat didaur ulang dan bahan lainnya dapat dibuang dengan aman. Tanyakan toko IKEA setempat atau otoritas lokal Anda di mana lokasi daur ulang berada di daerah Anda. Buang bahan kemasan di wadah koleksi yang disediakan.

Bahasa Malaysia

PENTING:

BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN DI MASA HADAPAN

CATATAN KESELAMATAN

- **PENTING!** Sentiasa tutup/letak payung di bawah apabila tidak digunakan. Jangan guna atau pasang payung semasa angin kencang, hujan, ribut petir atau jika salji turun. Dalam keadaan cuaca sebegini, kami cadangkan payung dilipat ke bawah atau dirungkas. Rungkas dengan mengikuti langkah penyediaan secara terbalik.
- **PENTING!** Payung hendaklah dikukuhkan pada tempatnya di atas tanah dengan dasar payung HJÄLTÖN atau SVARTÖ, yang dijual secara berasingan, atau dengan 4 papak konkrit, simen atau bahan yang serupa. Saiz yang disyorkan ialah 50x50 cm (kira-kira 20x20") dan mempunyai berat keseluruhan minimum. 90 kg (199 lb). Papak tidak disertakan tetapi boleh didapati di kedai DIY. Pastikan tanah rata dan padat. Agihkan papak di sekeliling pendakap silang seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di dalam arahan pemasangan
- Pasang payung dengan mengikuti arahan pemasangan secara teliti.
- Jangan pasang payung di atas tanah yang berpasir, berlumpur atau peri.
- Jauhkan kanak-kanak dan haiwan peliharaan semasa memasang payung.
- Kanak-kanak seharusnya dijaga semasa berada di sekitar payung.
- Payung ini untuk kegunaan di luar sahaja.

- Jangan nyalakan sebarang api di bawah atau berhampiran payung ini.
- Produk ini telah diuji untuk kegunaan domestik saja.
- Payung ini khusus digunakan sebagai peneduh dan bukan sebagai pelindung angin.

ARAHAN PENJAGAAN

Untuk mencuci kanopi, tanggalkannya daripada rangka payung dengan mengikuti arahan pemasangan. Ikuti arahan penjagaan yang dijahit pada fabrik.

Jangan guna bahan cuci berasaskan larutan kerana ini boleh melunturkan bahan dan merosakkan fabrik. Juga, jangan guna sebarang alkali atau bahan cuci berasid atau bagas wap untuk membersihkan payung.

Untuk membersihkan rangka payung, kesat dengan air sabun yang lembut. Produk plastik atau logam tidak disyorkan dicuci dengan pembersih yang lebih kuat atau bahan pelepas kerana ia mungkin berubah warna atau merosakkan permukaan.

Pembaikan: Rangka payung dicat dengan salutan serbuk cat plastik. Seandainya atas sebab-sebab tertentu salutan tertanggal, rangka payung tidak dilindungi dan boleh mengakibatkan karat. Untuk memperbaiki kerosakan, kesat sehingga bersih dan cat semula untuk mengembalikan perlindungannya.

PENSTORAN

Kami cadangkan agar payung ditutup apabila tidak digunakan dan letakkan sarung kalis air di atasnya. Sebelum meletakkan sarung di atasnya, pastikan yang payung anda benar-benar kering dan bersih. Semasa di luar musim, simpan payung yang ditutup di tempat yang dingin dan kering di dalam rumah.

PELUPUSAN

Jika anda ingin melupuskan payung, jangan buangkannya ke dalam tong sampah. Bawanya ke pusat kitar semula. Bahan kitar semula dan lain-lain bahan boleh dilupuskan secara selamat di sana. Sila bertanya kepada gedung IKEA setempat anda atau pihak berkuasa tempatan anda di mana lokasi pengitaran semula di kawasan anda. Lupuskan bahan pembungkusan di dalam tong pengumpulan yang disediakan.

- ولكنها متوفرة في متجر DIY. يجب التأكد من أن الأرض مستوية وثابتة. قم بتوزيع الألواح حول الدعامة المتقاطعة كما هو موضح في الرسم التوضيحي في إرشادات التجميع.
- ينبغي تجميع المظلة باتباع تعليمات التجميع بعناية.
- لا تقم بتجميع المظلة على التربة الرملية أو الموحلة أو السائبة.
- يجب إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة أثناء إنشاء المظلة.
- يجب مراقبة الأطفال حول المظلة.
- هذا المظلة للاستخدام الخارجي فقط.
- لا تقم بإشعال أي نار تحت المظلة أو بالقرب منها
- تم اختبار هذا المنتج للاستخدام المنزلي.
- الغرض من هذه المظلة هو أن تستخدم كمظلة شمسية وليس كحماية من الرياح.

تعليمات التسمية

لتنظيف الناموسية، أخرجها من إطار المظلة باتباع إرشادات التجميع. اتبع تعليمات العناية المثبتة على القماش. لا يجب أبدًا استخدام المنظفات التي تحتوي على مذيبات لأن هذه المواد قد تزيل اللون وتلفل القماش. أيضًا، لا يجب استخدام أي منظفات قلووية أو حمضية أو مكائن بخارية لتنظيف المظلة. لتنظيف إطار المظلة، امسحيه بمحلول صابوني معتدل. لا ينصح بتنظيف المنتجات البلاستيكية أو المعدنية بمنظف قوي أو مادة كاشطة لأنها قد تغير لون السطح أو تلفه. الصيانة: إطار المظلة مدهون بطلاء بلاستيك بورد. في حالة تقشر طبقة الطلاء لسبب ما، فإن إطار المظلة غير محمي وقد يتعرض للصدأ. لإصلاح الضرر، ينبغي مسح الإطار بعناية وإعادة طلائه لحمايته من جديد.

التخزين

نوصي بإغلاق المظلة عندما لا تكون قيد الاستخدام وتغطيتها بغطاء مقاوم للماء. وقبل وضع الغطاء، يرجى التأكد من أن المظلة جافة ونظيفة تمامًا. خلال مواسم عدم الاستخدام، يجب تخزين المظلة وهي مغطاة في مكان داخلي بارد وجاف.

التخلص من المنتج

في حالة الرغبة في التخلص من المظلة، فلا ينبغي رميها في حاويات النفايات، ويجب أخذها إلى مركز إعادة التدوير حيث يمكن التخلص بأمان من المواد القابلة لإعادة التدوير وغيرها من المواد. يمكنك الاستفسار من معرض أيكيا أو من الجهات المختصة عن موقع إعادة التدوير في منطقتك. ينبغي التخلص من مواد التغليف في حاويات التجميع المتوفرة.

ไทย

ข้อมูลสำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดและเก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- **ข้อสำคัญ!** หูหรือพื่นรับเสียงให้เรียบร็อยเมื่อไม่ได้ใช้งาน ห้ามประกอบหรือใช้ร่นสนามขบะสมแรง ผดตทกหนี พยพย หรือ หิมะตก หากสภาพอากาศเป็นไปตามตัวอย่างยกมาข้างต้น ควรพื่นรับเสียงหรือถอร่นสนามที่ประกอบไว้ การื้อถอร่นใช้ ขึ้นตอนเดียวกับการประกอบ แต่ให้เร็วจากขึ้นตอนท้ายสุดมาขั้ ขึ้นตอนต้นแรก
- **ข้อสำคัญ!** ต้องติดตั้งร่นสนามบนพื่นอย่างแน่นหนา โดยใช้ ฐานร่นสนาม HJÄLTÖN /เฮลเต็น หรือ SVARTÖ/สวาร์ตเตอ (ฐานร่นแยกจำหน่าย) หรือใช้แผ่นคอนกรีต พื่นซีเมนต์ หรือ แผ่นวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน จำนวน 4 แผ่น ขนาดของแผ่นวัสดุที่แนะนำ คือ 50x50 ซม. (หรือประมาณ 20x20 นิ้ว) โดยมีน้ำหนักรวมนั้้นต่ำ 90 กก. (199 ปอนด์) แผ่นวัสดุไม่ได้มีมาให้ในชุดสินค้า แต่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์

عربي

هام:

اقرأ بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

ملاحظات حول السلامة

- **هام!** أعلئ/أخفئ دائماً المظلة عندما لا تكون قيد الاستعمال ولا تستخدمها ما تجفّعها عندما تكون الرياح شديدة أو الأجواء عاصفة وممطرة، أو رعدية أو عند تساقط الثلوج. في هذه الظروف الجوية، نوصي بطي المظلة أو فكها. عند التفكيك يجب اتباع خطوات التركيب في الاتجاه المعاكس.
- **هام!** يجب تثبيت المظلة في مكانها على الأرض بقاعدتي المظلة HJÄLTÖN أو SVARTÖ، ثبّاعان على حدة، أو بأربعة ألواح من الخرسانة أو الأسمنت أو مادة مماثلة. الحجم الموصى به للألواح هو 50 × 50 سم (حوالي 20 × 20 بوصة) بوزن إجمالي بحد أدنى. 90 كجم (199 رطلاً). لا يتم تضمين الألواح

ในพีท และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า พื้นบริเวณที่จะตั้งรณมนนั้นเรียบเสมอกัน วางแผ่นวัสดุรองเหล็กกรุปกากบาทตามแบบที่ปรากฎในขั้นตอนการประกอบสินค้า

- ประกอบรณมนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการประกอบอย่างเคร่งครัด
- ห้ามประกอบและติดตั้งรณมนบนพื้นที่เป็นดินทราย ดินโคลนหรือดินร่วน
- กันแดดและสัตรเลียงให้ออกห่างจากบริเวณที่กำลังประกอบและติดตั้งรณมน
- เด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณรณมน
- รณมนนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเท่านั้น
- ห้ามจุดไฟในบริเวณใกล้เคียงหรือได้รับรณมนโดยเด็ดขาด
- สินค้าผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
- สินค้าผลิตขึ้นตามวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นรณมนบังแดด ไม่ใช่เพื่อเป็นรณมนสำหรับคนเรลเม

ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

ถอดผ้ารณมนออกจากรณมนตามขั้นตอนการประกอบที่นำมาแล้วทำความสะอาดผ้ารณมนตามขั้นตอนการทำความสะอาดที่เขียนติดมากับตัวผ้า

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสารตั้งต้นเป็นสารทำลาย เพราะอาจกัดสัวัสดุและทำให้เนื้อผ้าเสียหายได้ และห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรืออัลคาไลน์ หรือใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำทำความสะอาดรณมน

ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นๆ เช็ดทำความสะอาดรณมน ไม่แนะนำให้ใช้สารทำความสะอาดชนิดเข้มข้นหรือสารกัดกร่อนทำความสะอาดส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ เพราะอาจทำให้สีซีดจางหรือพื้นผิวเสียหาย การซ่อมบำรุง: รณมนรณมนผ่านการพันสัฝุ่นประเภทสัพลาสติก ผิดสัพันไว้เกิดหลร่อน ผิดของรณมนจะไม่ได้รับการปกป้องซึ่งอาจทำให้เกิดสนิมได้ สามารถซ่อมแซมได้โดยเช็ดรณมนให้สะอาดและพันสักลบไปเพื่อให้การปกป้องผิวรณมนตามเดิม

วิธีเก็บ

แนะนำให้รณมนรณมนและเก็บใส่ปลอกกันน้ำตลอดเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รณมนสะอาดและแห้งสนิทก่อนเก็บใส่ปลอก ช่วงที่ไม่ได้ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรนำรณมนที่เก็บใส่ปลอกไปเก็บไว้ในที่รณมนซึ่งมีอากาศแห้งและเย็น

วิธีทิ้ง

หากต้องการทิ้งรณมน ควรนำไปทิ้งที่ศูนย์คัดแยกและรีไซเคิลขยะแบบการทิ้งลงถังขยะทั่วๆ ไป เพราะทั้งวัสดุที่รีไซเคิลได้และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ทำรณมนจะได้รับการคัดแยกและกำจัดอย่างปลอดภัย สอนถากข้อมูลเพิ่มเติมที่สัโตรัเกียใกล้บ้านหรือสอนถากจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรลุถึงสินค้าสามารถแยกทิ้งในถังคัดแยกขยะได้

Tiếng Việt

QUAN TRỌNG!

ĐỌC KỸ VÀ LƯU LẠI ĐỂ THAM KHẢO KHI CẦN

LƯU Ý AN TOÀN

- **QUAN TRỌNG!** Luôn đóng/gập dù khi không sử dụng. Không dùng dù hoặc lắp ráp dù khi trời gió lớn, mưa, sấm chớp hoặc có tuyết. Trong điều kiện thời tiết như trên, chúng tôi khuyên nên gập dù xuống hoặc tháo rời dù. Để tháo rời dù, làm ngưng lại các bước lắp ráp dù.
- **QUAN TRỌNG!** Dù phải được cố định bằng đế dù HJÄLTÖN hoặc SVARTÖ (bán riêng) hoặc bốn khối bê tông, xi măng hoặc vật liệu tương tự. Các

khối này phải có kích thước tối thiểu 50x50 cm (khoảng 20x20") và có tổng khối lượng tối thiểu là 90 kg (199 lb). Các khối cố định không đi kèm sản phẩm nhưng có bán tại các cửa hàng DIY (cửa hàng bán dụng cụ tự sửa chữa). Đảm bảo rằng mặt đất phải bằng phẳng và chắc chắn. Đặt các khối xung quanh trụ đỡ chéo như hình minh họa trong hướng dẫn lắp ráp.

- Lắp ráp dù cẩn thận theo hướng dẫn Lắp ráp.
- Không Lắp ráp dù trên cát, bùn hoặc đất xốp.
- Để xa trẻ em và thú cưng khi Lắp ráp dù.
- Phải có người giám sát khi trẻ chơi đùa xung quanh dù.
- Chỉ sử dụng ngoài trời.
- Không đốt lửa dưới dù hay gần dù.
- Sản phẩm đã được kiểm nghiệm để dùng trong hộ gia đình.
- dù được thiết kế chủ yếu để che nắng và không có khả năng cản gió.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHĂM SÓC

Để vệ sinh tấm dù, tháo tấm dù ra khỏi khung theo hướng dẫn lắp ráp. Thực hiện theo hướng dẫn chăm sóc sản phẩm được may sẵn vào phần vải.

Tuyệt đối không dùng chất tẩy rửa có chứa dung môi hóa học vì các chất này sẽ tẩy trắng vải và làm hư hỏng vải. Đồng thời, không dùng chất tẩy rửa có tính axit hoặc tính kiềm hoặc máy phun hơi nước để làm sạch dù.

Để vệ sinh khung dù, lau sạch bằng dung dịch xà phòng nhẹ. Không khuyến khích dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc chất mài mòn để vệ sinh sản phẩm nhựa hoặc kim loại. Các chất này có thể làm bay màu hoặc làm hỏng bề mặt sản phẩm.

Sửa chữa: Khung dù được sơn một lớp sơn tĩnh điện. Nếu vì một vài lí do sơn bị bong tróc, khung dù sẽ không được bảo vệ và có thể sẽ bị gỉ sét. Để sửa chữa, cần lau sạch khung dù và sơn lại lớp tĩnh điện để bảo vệ khung dù tốt hơn.

LƯU TRỮ

Chúng tôi khuyên bạn nên gập dù ngoài trời xuống khi không sử dụng và che phủ dù bằng tấm che chống thấm nước. Trước khi che phủ dù, đảm bảo dù hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ. Vào những thời điểm không phù hợp để sử dụng, bảo quản dù đã được che phủ ở nơi thoáng mát, khô ráo trong nhà.

VỨT BỎ SẢN PHẨM

Nếu muốn vứt bỏ dù, không bỏ trực tiếp vào thùng rác. Hãy mang dù đến trung tâm tái chế. Tại đây, vật liệu tái chế và các vật liệu khác sẽ được xử lí một cách an toàn. Liên hệ với cửa hàng IKEA hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để biết được các địa điểm tái chế. Vứt bao bì sản phẩm vào thùng rác phù hợp.

